www.iqbalkalmati.blogspot.com

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

فہرست

1	الجھن
2	بڈھا
3	کانی آنکھ
4	من کی ڈالی
5	نیم وا دریچے
6	ایک رات چوپال پر
7	ادھورا گیت
8	حیوان اور انسان
9	سونے کا ہار
10	غریب کا تحفہ
11	استعفا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

مختصراً

"سیلاب" اور "گرداب" میرے افسانوں کے دو الگ الگ مجموعے تھے۔ یہ افسانے 1940ء اور 1941ء میں لکھے گئے اور 1942ء میں دو مجموعوں کی صورت میں ادارہ اشاعت اردو (حیدر آباد۔ دکن) نے شائع کیے۔ اس وقت تک میرے افسانوں کے تین مجموعے "چوپال"۔ "بگولے" اور "طلوع وغروب" لاہور سے شائع ہو چکے تھے۔اس کے باوجود میں اس دور کو اپنی افسانہ نویسی کا ابتدائی دور ہی کہوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ابتدائی دور زود نویسی کا دور بھی تھا۔ ان دونوں مجموعوں میں 27 افسانے اور دو ڈرامے شامل تھے۔ مجھے اعتراف ہے کہ ان میں سے بیشتر خام تھے اور میں اپنی زندگی کے آغاز میں ہر نئے ادیب کی طرح کڑے انتخاب کے بجائے فوری اشاعت کو ضروری سمجھتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کہانیاں بھی جنہیں زیادہ سے زیادہ ایک نو مشق کی کوشش کہا جاسکتا ہے' ان مجموعوں میں شامل ہو گئیں۔ اب ان افسانوں کا انتخاب ایک ہی مجموعے کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے وہ افسانے خارج کر دیئے ہیں جو کسی بھی صورت میری نمائندگی نہیں کرتے بلکہ محض لکھنے کی خاطر لکھے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

گئے تھے۔ یہ دس افسانے جو "سیلاب و گرداب" کی صورت میں یک جا شائع ہو رہے ہیں 'میری ابتدائی ادبی زندگی کے صحیح نمائندہ ہیں۔ اس زمانے میں مجھے جو موضوعات پسند تھے اور میں جو تکنیک استعمال کرتا تھا یا میرا جو اسلوب صورت پذیر ہو رہا تھا' وہ ان افسانوں میں نمایاں ہے' ان کی سب سے بڑی خصوصیت وہ سادگی' معصومیت اور حیرت ہے جنہیں بعد میں تجربات و مشاہدات نے بہت حد تک بدل ڈالا۔ میں یہ افسانے اطمینان اور مسرت سے دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔

ندیم

فروری 1961ء

سیلاب و گرداب

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

الجھن

برات آئی' دعائے خیر کے لئے ہاتھ اٹھائے گئے اور اس کے بیاہ کا اعلان کر دیا گیا ——— وہ لال دوپٹے میں سمٹی ہوئی سوچنے لگی کہ اتنا بڑا واقعہ اتنے مختصر وقت میں کیسے تکمیل تک پہنچا۔ وہ تو یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ جب برات آئے گی تو زمین اور آسمان کے درمیان الف لیلہ والی پریوں کے غول ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے' پروں سے پرے ہٹائے بڑا پیارا سا ناچ ناچیں گے۔ بکھرے ہوئے تارے ادھر ادھر سے کھسک کر ایک دوسرے سے چمٹ جائیں گے اور ٹمٹماتے ہوئے بادل کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اور پھر یہ بادل ہولے ہولے زمین پر اترے گا' اس کے سر پر آکر رک جائے گا اور اس کے حنا آلود انگوٹھے کی پوروں کی لکیریں تک جھلملا اٹھیں گی۔ دنیا کے کناروں سے تہنیت کے غلغلے اٹھیں گے' اور اس کے بالیوں بھرے کانوں کے قریب آکر منڈلائیں گے!

——— وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ دن اور رات کا سلسلہ صرف اس کے بیاہ کے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

انتظار میں ہے۔ بس جونہی اس کا بیاہ ہو گا پورب پچھم پر ایک مٹیالا سا اجالا چھا جائے گا جسے نہ دن کہا جاسکے گا اور نہ رات ——— بس جھٹپٹے کا سا سماں رہے گا قیامت تک! اور پھر جونہی برات اس کے گھر کی دہلیز الانگے گی یہ سارا انتظام کھلکھلا کر ہنس دے گا اور تب سب لوگوں کو معلوم ہو گا کہ آج گوری کا بیاہ ہے۔

لیکن بس برات آئی، لمبی لمبی داڑھیوں والوں نے آنکھیں بند کر کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، شکر اور تل تقسیم کئے گئے اور پھر اسے ڈولی میں دھکا دے دیا گیا۔ ڈھول چنگھاڑنے لگا، شہنائیاں بلکنے لگیں، گولے بھونکنے لگے اور وہ کسی ان دیکھے، ان جانے گھر کو روانہ کر دی گئی۔

ڈولی میں سے بہت مشکل سے ایک جھری بنا کر اس نے میراسیوں کی طرف دیکھا۔ کالے کلوٹے بھتنے! میلا ڈھول اور مری ہوئی سنپولیوں کی سی شہنائیاں! نہ بین نہ باجہ۔ نہ تو تنیاں۔ نہ اونٹوں کے گھٹنوں پر جھنجھناتے ہوئے گھنگھرو۔ نہ گولے نہ شرکنیاں! جیسے کسی لاش کو قبرستان کی طرف لئے جارہے ہیں۔

ہاں! وہ لاش ہی تو تھی اور یہ ڈولی اس کا تابوت تھا۔ سفید کفن کے بجائے اس نے لال کفن اوڑھ رکھا تھا اور پھر یہ تھے۔ بلاق۔ جھومر۔ ہار ——— بالیاں ——— یہ قبر والے بچھو اور کنکھجورے تھے، جو اسے قدم قدم پر ڈس رہے تھے۔

ڈولی کے قریب بار بار ایک بوڑھے کی کھانسی کی آواز آتی تھی۔ شاید وہ دولھا میاں کا باپ تھا ——— پھر جس دولھا کا باپ پل پل بھر بعد بلغم کے اتنے بڑے گولے پٹاخ سے زمین پر دے مارتا ہے، وہ خود کیسا ہو گا! ——— ہائے ری!

وہ رو دی۔ وہ اس سے پیشتر بھی روئی تھی جب اس کی ماں نے اسے گلے سے لگایا اور سرگوشی کی۔ "میری لاڈلی گوری! تیری عزت ہماری عزت ہے۔ تو اب پرائے گھر جارہی ہے بڑے سلیقے سے رہنا ورنہ ناک کٹ جائے گی ہماری!" ——— یعنی اس کی ماں کو اس موقعہ پر بھی اپنی ناک کی فکر کھائے جا رہی تھی ——— اور بے چاری گوری کا دل ——— جیسے دہکتی ہوئی بھٹی میں دانۂ اسپند ڈال دیا جائے! ماں کو اس کے دل کی پروا ہی نہ تھی۔ اس وقت دکھاوے کی خاطر وہ روئی بھی، سسکیاں بھی بھریں۔ گھونگھٹ کے دوپٹے سے آنسو بھی پونچھے۔ پر اس رونے میں کوئی مزا نہ تھا۔ یہاں ڈولی میں اس کی آنکھوں میں نمی تیری ہی تھی کہ اس کے روئیں روئیں میں ہزاروں خفتہ بے قراریاں جاگ اٹھیں ——— شہنائیاں اس کا ساتھ دیتی رہیں، ڈھول پٹتا رہا۔ جب ڈولی دولھا کے گھر تک پہنچی تو ایک گولہ چھوٹا جیسے کسی بیمار کو مری مری چھینک آئے! اسے اپنی سہیلی نوری پر بہت غصہ آیا جو بیاہ کے گیت گانے میں تاک سمجھی جاتی تھی اور جس نے ایک بار گوری کو چھیڑنے کے لئے بھرے مجمع میں ایک گیت گایا تھا۔

عطر پھلیل لگا لے ری گوری ——— سیج بلاوے تو ئے!

گوری نے ڈولی سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ آنگن سے اس پار تک روئی کی ایک پگڈنڈی سی بچھا دی گئی۔ اس کی ساس اس سے یوں لپٹ گئی جیسے گوری نے شراب پی رکھی ہے اور ساس کو اس کے لڑکھڑا جانے کا خوف دامن گیر ہے۔ گوری نرم نرم روئی پر چلی تو اسے یونہی شک سا گزرا کہ واقعی یہ واقعہ تھا تو بڑا۔ اس کا اپنا اندازہ غلط تھا۔ آخر اتنی ملائم روئی صرف اسی لئے تو خاک پر بچھائی گئی ہے کہ اس کے مہندی رچے پاؤں میلے نہ ہوں! پر جونہی اس نے اس شبہ کو یقین میں بدلنا چاہا تو اچانک اس کے پاؤں زمین کی سخت ٹھنڈی سطح سے مس ہوئے اور سراب کی چمک ماند پڑ گئی! ——— روئی ختم ہو چکی تھی۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

اب اسے سخت سزا بھگتنا پڑ گئی۔ اسے ایک کونے میں بٹھا دیا گیا۔ اس حالت میں کہ اس کا سر جھک کر اس کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا اور اس کے گلے کا ہار آگے لٹک کر اس کی ٹھوڑی سے لپٹا پڑتا تھا۔ گاؤں والیاں آنے لگیں۔ اکنی چونی اس کے مردہ ہاتھ میں ٹھونس دی اور گھونگھٹ اٹھا اٹھا کر بڑ بڑ اس کے چہرے کو گھورا جانے لگا ——— جیسے لاش کے چہرے سے آخری دیدار کی خاطر کفن سرکا دیا جاتا ہے!

سارا دن اس کی ناک کے بانسے' اس کی پلکوں کے تناؤ' اس کے ہونٹوں کے خم' اس کے نام اور اس کے رنگ' اس کی اتنی بڑی نتھ اور جھومر اور بالیوں کے متعلق تذکرے کئے گئے اور جب سورج پچھم کی طرف لٹک گیا تو اس کے آگے چوری کا کٹورا دھر دیا گیا۔ اس کی ساس ناک سڑسڑاتی اس کے پاس آئی اور بولی۔ "لے میری رانی کھا لے چوری!" ——— جیسے نئے نئے طوطے کو پچکارا جاتا ہے۔ اسے ایک بار خیال بھی آیا کہ کیوں نہ نئے طوطے کی طرح لپک کر اس کی ناک کاٹ لے۔ مگر اب اس نے ایک اور موضوع پر بولنا شروع کر دیا تھا۔ "کیا کروں بہن! عجیب مصیبت ہے۔ جی میں آتی ہے' نگوڑی ناک کو کاٹ کر وہ پھینکوں۔ بس چلی جا رہی ہے۔ اتنی چھینکیں آتی ہیں بہن اور اتنی بڑی چھینکیں کہ اللہ قسم' انتڑیاں کھنچ جاتی ہیں۔ ادھر میرے لال کا بھی یہی حال ہے۔ پڑا چھینکتا ہے پلنگ پر۔ اور اس کا باپ تو کھانس کھانس کر ادھ موا ہو رہا ہے۔"

گوری کا جی متلا گیا!

پرے کونے میں دبکی ہوئی ایک بڑھیا نے اپنے زکام کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ "چھینک آتی بھی ہے اور نہیں بھی۔ بس یوں منہ کھولتی ہوں' کھولے رکھتی ہوں' اور چھینک پلٹ جاتی ہے اور پھر دماغ میں وہ کھلبلی مچتی ہے کہ چاہتی ہوں چولھے میں دے دوں اپنا سر!"

"عام شکایت ہے" دوسری بولی۔

پہلی نے اپنی بیگنی ایسی ناک کو چادر تلے چھپا کر کہا۔ "پر میں تو سمجھتی ہوں یہ آفت صرف مجھی پر ٹوٹی۔ اوروں کو زکام ہوتا ہے کہ دماغ میں کھجلی ہوئی' چھینک آئی اور جی خوش ہو گیا۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ زکام کی فکر الگ اور چھینک کی فکر الگ!"

اور خدا جانے کیا بات ہوئی کہ گوری کو بھی چھینک آ گئی۔ اس کی ساس کے اوسان خطا ہو گئے۔ "تجھے بھی چھینک آ گئی بیٹا! اے ہے۔ اب کیا ہو گا۔ نئی نویلی دلہن کو اللہ کرے کبھی چھینک نہ آئے۔ بنفشے کا کاڑھا بنا لاؤں؟ پر اس صدی میں تو بنفشے کا اثر ہی ختم ہو گیا۔ گرم گرم چنے ٹھیک رہیں گے۔" وہ یہ کہہ کر تیزی سے اٹھی تو چادر پاؤں میں الجھ گئی' ہڑبڑا کر پرے کونے میں بڑھیا پر جا گری۔ وہ بے چاری چھینک کو دماغ سے نوچ پھینکنے کی کوشش میں تھی کہ یہ نئی آفت ٹوٹی تو اس کے منہ سے کچھ ایسی آواز نکلی جیسے گیلا گولا پھٹتا ہے۔

ہڑبونگ مچی تو گوری سب کے دماغ سے اتر گئی اور جب کچھ سکون ہوا تو بوڑھی نائن کولہوں پر ہاتھ رکھے اندر آئی اور گوری کے پاس بیٹھ کر بولی۔ "اے ہے میری رانی' ابھی تک چوری نہیں کھائی تو نے؟ نوج ایسی لاج بھی کیا! ان دولہنوں کو کیا ہو جاتا ہے۔ دو دو دن ایک کھیل بھی اڑ کر نہیں جاتی پیٹ میں اور منہ پھوڑے بیٹھی ہیں۔"

"جی نہیں چاہتا۔"

"جی چاہتا ہے اندر سے' پر یہ نگوڑی لاج! نیا گھر ——— نئے لوگ ——— پر گوری رانی میں تو تیری وہی پرانی نائن ہوں۔ جانے کے بار مینڈھیاں بنائیں۔ کے بار کنگھی کی۔ وہ ایک بار تیرا بندا الٹک گیا تھا بالوں میں۔ تو چلائی تو گھر بھر مچل اٹھا۔ بڑی بوڑھیوں کا جمگھٹ ہو گیا کوئی بندے کو مروڑ رہی ہے۔ کوئی بالوں کی لٹیں کھینچ رہی ہے اور تو گلاب کا پھول بنی جا رہی ہے

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

دکھ سے۔ میں آئی۔ باہوں کی ایک لٹ کو اِدھر اٹھایا۔ ایک لٹ کو اُدھر کھسکایا اور بندا اپنی جگہ پر آگیا۔ یاد ہے نہ؟ ——— پر تو چوری کیوں نہیں کھاتی؟ یہ بھی کوئی بات ہے!" ——— اور نائن نے گوری کا گھونگھٹ اٹھا کر کٹورا آگے بڑھا دیا۔

گوری کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ چوری کھائے تو ہیٹی ہو' سب کہیں چار دن سے بھوکی تھی۔ بھوکے کے گھر سے آئی ہے! ——— اور اگر ہاتھ اٹھا کر کٹورے کو پرے دھکیلتی ہے تو چوڑیاں بجتی ہیں۔ یہ کم بخت بلور کی چوڑیاں جن کے چھناکے میں چھریاں تیز کئے جانے کی آواز تھی۔ بڑی بوڑھیاں کہنیوں تک ٹھونس دیتی ہیں چوڑیاں اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہیں کہ آواز نہ آئے زیور کی' لوگ بے شرم کہیں گے!

گوری پہلے تو بت بنی بیٹھی رہی۔ لیکن جب نائن نے کٹورا اتنا آگے بڑھا دیا کہ وہ اس کے چولے کو چھونے لگا تو وہ ضبط نہ کر سکی۔ سرگوشی سے بھی کہیں مدھم آواز میں بولی۔ "میں نہیں کھاؤں گی۔" "کیوں نہیں کھائے گی؟" نائن نے اب گوری کا گھونگھٹ اٹھا کر اپنے سر پر ڈال لیا تھا۔ "کیوں نہیں کھائے گی؟ میں کھلا کے چھوڑوں گی۔ تو نہیں کھائے گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔" ہاں! پر تُو تو ضرور کھائے گی۔ یہ دیکھ میں کھا رہی ہوں۔ دیکھ نا گوری دلہن! ——— اس نے چوری کی مٹھی بھری اور پوپلے منہ میں ٹھونس کر بولی۔ "اب کھا بھی لے گوری رانی۔"

"میں نہیں کھاؤں گی!" گوری نے یہ الفاظ کچھ اونچی آواز میں کہے اور گھونگھٹ کھینچ کر دیوار سے لگ گئی۔ چوڑیاں بجیں تو عورتیں منمنانے لگیں۔

"نئی نویلی دلہنوں کو پہلے دن کبھی بولتے نہ سنا تھا۔"

"اور پھر ایک جگہ جم کر بیٹھتی ہی نہیں۔ تڑپ رہی ہے پارے کی

طرح۔"

"اس صدی کے بیاہ کیا ہوتے ہیں مداری کھیل دکھاتا ہے!"

"ہم نے دیکھی ہیں دلہنیں۔ ایک ایک مہینہ نہیں بولیں کسی سے ——— ایک ایک مہینہ!"

"مجھے تو اور کسی کی بات یاد نہیں' یہ سامنے نائن بیٹھی ہے ہماری۔ دس دن تک منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھی رہی۔ گیارھویں دن زبان بھی ہلائی' تو بس اذان کے بعد کلمہ پڑھنے کے لئے۔"

نائن یوں ہنسنے لگی جیسے ٹین کے ڈبے میں کنکر ڈال کر اسے لڑھکا دیا جائے! بولی۔ "کسی سے غلط بات سنی تو نے۔ میں نے تو جیسے ہی نئے گھر میں قدم دھرا اور ساس نے سہارا دیا تو بلبلا اٹھی تھی۔ "کیا لپٹی پڑتی ہے مجھ سے۔ میں کوئی لنڈوری چڑیا تھوڑی ہوں کہ اڑ جاؤں گی پھُر سے! یہیں رہنے آئی ہوں یہیں رہوں گی۔" ساس اپنا سا منہ لے کر رہ گئی اور میں نے اسی روز دن ڈھلے سہیلیوں سے گیٹیاں کھیلی۔"

"کون گیٹیاں کھیلی؟" گوری کی ساس دامن میں چنے ڈالے اندر آئی ——— "دلہنوں کے ساتھ گیٹیوں کی باتیں کی جاتی ہیں؟ اتنی عمر گزر گئی۔ سینکڑوں بار دایہ بنی پر بات کرنے کا ڈھب نہ آیا تجھے۔"

بھونے ہوئے چنوں کی خوشبو سے کمرہ مہک گیا۔ لیکن شادی کے روز سسرال میں پہلے پہل چنوں سے فاقہ توڑنا برا شگون تھا اس لئے گوری اپنے آپ کو اس نئے حملے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نائن کا بازو چھوا اور جب وہ اس کے بالکل قریب ہو گئی تو آہستہ سے بولی "مجھے نیند آئی ہے۔"

گوری کی ساس نے نائن سے پوچھا۔ "کیا کہتی ہے دلہن؟"

نائن ناک پر انگلی رکھ کر بولی۔ "کہتی ہے مجھے نیند آئی ہے" ——— اور پھر ٹین کے ڈبے میں کنکر بجنے لگے۔ "میری رانی! نیند کی بھی ایک ہی کہی تو

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

نے۔ تیری نیند ——— دلہن کی نیند ——— اب میں کیا کہوں؟ گلے میں پھندا پڑ رہا ہے۔"

یہاں گوری کی ساس نے رحمت کے فرشتے کا روپ دھار لیا۔ بولی۔ "اے رہنے بھی دے بات بات پر دانت نکال رہی ہے۔ نائن ہو تو سلیقے والی ہو۔ یہ بھی کیا کہ ادھر بات ہوئی ادھر منہ پھاڑ کر حلق کا کوا دکھا دیا۔ اتنا نہیں سوچا تو نے کہ دن بھر کی تھکن ہے ——— سو جا میری گوری رانی! ——— یہ یہ چنتے!"

"او نک" گوری ایک طرف جھک گئی اور قریب ہی بیٹھی ہوئی ادھیڑ عمر کی ایک عورت گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ "بڑی لاڈلی دلہن ہے۔"

سب عورتیں باہر نکل گئیں مگر گوری کی آنکھوں میں نیند کہاں! آج تو نیند کی جگہ کاجل نے لے لی تھی۔ آنکھیں جھپکاتی رہی اور سوچتی رہی۔ "واہ رے میرے پھوٹے بھاگ' یہی بیاہ ہے تو واری جاؤں کنوار پنے کے۔ کیا زمانہ تھا! کون سی بات یاد کروں۔ کس کس کو یاد کروں۔ وہ ساون کی چھم چھم میں کیڑے نیم کے ٹہنے میں جھولا۔ جھولا آگے لپکتا ہے تو ٹھنڈی پھوار منہ دھو ڈالتی ہے۔ جھولا پیچھے ہٹتا ہے تو خوشبو میں بسی ہوئی لٹیں چہرے کو پونچھ ڈالتی ہیں۔ آس پاس سہیلیوں کا جھرمٹ۔ بھیگی بھیگی ڈھولک کی میٹھی میٹھی آواز اور وہ نوری کا رس بھرا گیت۔

موہے ساون کی رم جھم بھائے رے!
بھیا کے کانوں میں سونے کی مُرکی!
پھول پہ تتلی آئے رے!
موہے ساون کی رم جھم بھائے رے!

اور پھر اسی شریر نوری کے کھلے آنگن میں چرخے کی گھوں گھوں۔ گورے گورے ہاتھ پونیاں تھامے اوپر ابھرتے ہیں۔ تکلے سے باریک تار لپٹتا

ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے تار پونی سے نہیں نکلا' گوری کی ہتھیلی سے نکلا ہے۔ اور پھر عید کے دن ملنگ سائیں کا میلہ۔ وہ اتری ڈھیریوں پر پروا کے جھونکوں میں لچکتی ہوئی گھاس ——— وہ گونجتے ہوئے دن اور چپ چاپ راتیں اور یہ نئی زندگی! جینا اجیرن ہو رہا ہے۔ ہاتھ پاؤں ہلاؤں تو بے حیا اور لاڈلی ٹھہروں۔ اجنبی عورتوں کا ہجوم۔ کوئی کھانستی ہے' کوئی چھینکتی ہے' کوئی پڑوسن کا گلہ کرتی ہے' کوئی میرے لونگ کے کناروں کو بھدا بتاتی ہے۔ نہ ساون کی رم جھم کے گیت' نہ الف لیلہ کی کہانیاں' نہ ہم سنوں کی چہلیں! اس سے تو یہی اچھا تھا کہ ماں باپ مجھے کسی نگر سے دھکا دے دیتے۔ یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی۔ چین آجاتا۔ کیسے مذاق کرتی تھی مجھ سے نوری۔ "تو بیاہی جائے گی۔ دلہن بنے گی۔ مہندی رچائے گی۔ دودھ پیے گی۔ چوری کھائے گی اور نوری کو اپنے من سے نکال دے گی ——— بے چاری بھولی نوری۔ نادان سہیلی۔ تجھے کیا معلوم کہ بیاہ کی رونق صرف دکھاوا ہے۔ پھوڑے کی طرح ——— اوپر سے گلابی' اندر سے پیپ بھرا ——— اف!

گوری گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ چوڑیاں بجیں تو ساس اندر دوڑی آئی۔ اس کے بعد ایک عورت ——— پھر دوسری ——— پھر تیسری ——— اور وہی دم گھونٹ دینے والی حرکتیں اور باتیں۔ گوری نے چاہا نادان بچوں کی طرح مچل جائے' بلک بلک کر رونے لگے۔ بھاگ کر باہر آنگن میں لوٹنے لگے۔ زیور اتار پھینکے۔ کپڑوں کی دھجیاں اڑا دے اور آنکھوں پر دھول بھرے ہاتھ مل مل کر سسکیاں بھرے اور کہے۔ "میں تو سب سے تھک گئی ہوں۔ تم الف لیلہ والی دیونیاں ہو۔ تمہاری کھانسی کی ٹھن ٹھن تمہارے قہقہوں کی کرختگی' بہت ڈراؤنی' بہت گھناؤنی ہے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو میں ناچنا اور گانا چاہتی ہوں۔" ——— تب گوری کے دل میں ایک خیال آیا۔ "نہ ہوئی نوری اس وقت ورنہ یوں زور سے گلے لگاتی اسے کہ کم بخت کی پسلیاں پٹاخے چھوڑنے لگتیں۔"

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

وہ خدا جانے اور کیا سوچتی مگر ساس اور نائن اور دوسری کئی عورتیں پھر وہی گھسی پٹی باتیں کرنے لگیں۔ "جہیز کی کیا پوچھتی ہو بہن۔ سارا گھر دے ڈالا گوری کو۔ ایسے ایسے کپڑے کہ دیکھے سے میلے ہوں۔ وہ وہ زیور کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔ پلنگ کے پائے نہیں دیکھے تم نے؟ نیچے سے شنگرفی اور اوپر سے اتنے سفید جیسے چاند اتار کر جڑ دیئے ہیں۔ اصل میں میرا بیٹا ہے ہی قسمت والا!"

اور نائن بولی "کیا بھیلا گبرو ہے۔ آج نائی کہہ رہا تھا' میں کپڑے پہنانے لگا دولہا کو' شانے پر ہاتھ پھیرا تو جیسے فولاد ہے اور چہرے پر وہ نور کہ تارے بغلیں جھانکنے لگیں ——— پر میں نے ابھی ابھی اسے ڈیوڑھی میں کھڑے دیکھا۔ اس زکام کا برا ہو' پھول سا چہرہ یوں ہو رہا تھا ———" اور نائن نے اپنی سفید چادر کا پلو سب کے آگے پھیلا دیا۔

گوری کے لیے یہ موضوع بھی دلچسپی سے خالی تھا۔ نائنیں جھوٹ بولتی ہیں اکثر۔ پر وہ بھیلا ہے بھی تو کیا! حالت تو یہ ہے کہ چار پہر سے اس کے گھر میں بیٹھی ہوں اور اس نے شکل تک نہیں دکھائی۔ وہیں ڈیوڑھی میں پڑا جھینکتا ہے' بے ترس!

بڑی دیر کے بعد شام آئی۔ عورتیں چلی گئیں اور اس نے پاؤں ہاتھ پھیلا کر بازو تانے۔ زیوروں سے لدے پھندے سر کو دھیرے سے جھٹکایا اور باہر دیکھا۔ اس کی ساس اور نائن سامنے کے کمرے سے باہر آتی تھیں اور اندر گھس جاتی تھیں۔ مرجھائی ہوئی بانہوں میں تانبے کے کنگن اور پیتل کی چوڑیاں جیسے کھانس رہی تھیں۔ جوتیاں چپڑ چپڑ چیخ رہی تھیں اور وہ کل دار گڑیوں کی طرح مٹکتی پھر رہی تھیں۔

کچھ دیر بعد گاؤں والیاں گیت گانے اور سننے آئیں تو ان کے ہمراہ نوری بھی آئی۔ گوری کے قریب بیٹھ گئی اور اس کے کان میں بولی۔ "آج تو

بات تک نہیں کرتی بہن۔" اور پھر آنکھیں مٹکا کر کھٹکنے لگی۔

دلہن کا بولنا گناہ ہے' اور پھر گوری تو ان اللہ والیوں کا ذکر بھی سن چکی تھی جنہوں نے ایک ایک مہینہ چپ شاہ کا روزہ رکھا۔ اس لئے اس نے بولنا مناسب نہ سمجھا۔ بس دھیرے سے نوری کے پہلو میں کہنی جڑ دی۔ اور نوری تڑپ کر بولی۔ "لے کے کلیجہ ہلا دیا میرا۔ کیوں نہ ہو' بیاہ جو ہو گیا تیرا۔ ہو لینے دے ہمارا بیاہ' تیرے گھر کے پاس سے گزریں گے تو ناک بھوں چڑھا کر آگے بڑھ جائیں گے غرور سے پلٹ کر دیکھیں گے بھی نہیں۔ کر لے مان۔ گھڑی گھڑی کی بات ہے۔"

گوری کی زبان میں سوئیاں سی چبھ گئیں۔ جب تک گیت گائے جاتے رہے وہ نوری کو اور نوری کے نقرئی بندوں کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ۔

"یہ کنوار پنے کے ساتھی بندے کیسے بھلے لگتے ہیں گلابی کانوں میں۔ اور ایک میرے کان ہیں کہ کیڑوں ایسی پتلی پتلی بالیوں سے پٹے پڑے ہیں۔ نوری سر ہلاتی ہے تو یہ بندے تاروں کی طرح ٹمٹا اٹھتے ہیں اور جب پلٹ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو بندے انگوروں کا گچھا بن جاتے ہیں" ——— سوچتے سوچتے اس کا ماتھا دھوپ میں پڑی ہوئی ٹھیکری کی مانند تپ گیا اور جب سب ناچنے لگیں اور نوری نے ڈھولک کے اردگرد گھوم کر ایک گیت گایا۔

جاری سہیلی اب جا' ——— تو ہے پیا بلاوے!
چاندی کی جھیلوں کے پار رے
سونے کے ٹیلوں کے پار رے
جاری سہیلی اب جا ——— تو ہے پیا بلاوے

تو گوری نے دیوار سے سر ٹیک کر رونا چاہا کہ ذرا جی ہلکا ہو جائے مگر آج تو آنکھوں میں ہر چیز کی جگہ کاجل نے لے لی تھی۔ نہ نیندیں۔ نہ آنسو۔ بس کاجل ہی کاجل! ——— اچھا بیاہ ہوا۔ یہ بھی خوب رہی!

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

جب سب چلی گئیں اور آنگن سونا ہو گیا تو دولہا کا باپ کھانستا ہوا آیا اور ایک طرف سے حقہ اٹھا کر چلتا بنا۔ نائن ہاتھ ملتی اٹھی اور بولی۔ "آ میری بچی' ادھر پلنگ پر آجا۔ نیند آرہی ہو گی تجھے!" ——— اور پھر گوری کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر نائن نے اسے یوں کھینچا جیسے لاش کو اٹھا رہی ہے۔

گوری پاؤں گھسٹتی کمرے میں آئی۔ رنگین پائے والے پلنگ پر دھم سے گری اور چھم سے لیٹ گئی۔ نائن بولی۔ "بیٹی زیور تو اتار لے۔ تھ وتھ کہیں اٹک گئی تو مشکل بنے گی۔" ——— "نہیں اٹکتی۔" گوری بولی۔ "میں خود اتار لوں گی کسی وقت۔"

نائن نے آگے بڑھ کر پھر اس کی بغلوں میں دونوں ہاتھ جما دیے۔

"نہیں نہیں بیٹی۔ یہ برا شگون ہے۔ زیور اتارنے ہی پڑتے ہیں۔ ایک بار ایک دلہن نے تیری طرح———"

لیکن نائن اپنی کہانی شروع کرنے ہی پائی تھی کہ گوری زیور نوچنے لگی اور پھر فوراً دھڑام سے چنگ پر گر گئی۔ ٹین کے ڈبے میں کنکر بج اٹھے۔ نائن بولی۔ "یہ بھی خوب رہی!" نائن چلی گئی اور گوری دانت پیس کر رہ گئی۔

جیسے بہت سے تاگے آپس میں الجھ جائیں تو انھیں سلجھانے کی کوشش اور الجھنیں پیدا کر دیتی ہے' بالکل یہی کیفیت تھی گوری کے ذہن کی۔ بیاہ کا پہلا دن کابوس بن کر اس کے سینے پر سوار تھا کہ اچانک چرخ سے دروازہ کھلا۔ گوری چونکی۔ "ارے۔"

"میں سمجھتی تھی نائن جھوٹ بکتی ہے۔" اس نے گھونگھٹ کی تکنوں میں سے کنکھیوں سے نووارد کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ "یہ میرا دولہا ہے یا لال بادشاہ!"

بھونچال سا آگیا اس کی طبعیت میں۔ چیختی ہوئی آندھیوں' کڑکتے ہوئے بادلوں' لڑھکتی ہوئی چٹانوں اور ٹوٹتے ہوئے تھنوں میں لپٹا ہوا ذہن یہاں

سے وہاں اچھلنے لگا سنبھل کر بیٹھنا چاہا تو پلنگ کے پائے تک کھسک گئی۔

دولہا مسکراتا رہا اور پھر پلنگ پر بیٹھ کر بولا۔ "اگر تم کچھ اور پرے کھسکتیں تو پلنگ سے گر جاتیں!"

گوری خاموش رہی۔

دولہا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا۔ "سنا کچھ!"

اور یکایک آندھیاں تھم گئیں اور بادلوں نے چپ سادھ لی۔ گوری کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ ذہن یوں صاف ہو گیا جیسے اس نے کڑکتی دھوپ میں لیموں کا یخ شربت غٹ غٹ چڑھا لیا ہے۔ انگڑائی آئی تو بانہیں نہ تان سکی۔ بس اندر ہی اندر پیچ کھا کر رہ گئی اور پھر ہاتھ چھڑا کر ذرا پرے کھسکنے کی کوشش کرنے لگی۔

"پلنگ سے گر جاؤ گی گوری۔" دولہا بولا۔

"آپ کی بلا سے!" گوری نے جیسے اپنے ذہن کا سارا بوجھ اتار کر پرے جھٹک دیا۔

"اگر تم گر گئیں تو مجھے تکلیف ہو گی۔" دولہا بولا۔

گوری شرما گئی۔ اور بے تعلق سا سوال کر بیٹھی۔ "زکام کا کیا حال ہے؟"

"رک گیا ہے اس وقت۔" دولہا مسکرایا اور پھر خاموشی کے ایک طویل وقفے میں گوری کی اٹھتی اور گرتی ہوئی نظروں نے دولہا سے بہت سی باتیں کر لیں اور جب آنگن کے پرلے سرے پر اپنے ڈربے میں ایک مرغی کڑکڑائی تو دولہا نے چونک کر کہا "کوئی بات کرو گوری!"

"تم ہی کوئی بات کرو۔" گوری پہلی مرتبہ مسکرائی۔

"کیا بات کروں؟"

"کوئی کہانی وہانی سناؤ۔" گوری جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہو۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

"کہانی؟ ـــــــ کیسی کہانی؟" دولھا نے پوچھا۔

"کوئی پریوں وریوں کی کہانی۔" گوری کھل کر بولنے کے باوجود سمٹی جا رہی تھی۔

"مجھے تو صرف لال بادشاہ اور سبز پری کی کہانی آتی ہے۔" دولھا مسکرایا۔

"وہی سہی۔" گوری نے انگلی میں سنہری انگوٹھی کو گھماتے ہوئے کہا۔

دولھا نے تکیے پر کہنی ٹیک دی۔ "تو پھر سنو۔ پر ذرا قریب ہو کر سننا ـــــــ یوں ـــــــ جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے نا' وہاں ایک نگری ہے جسے لوگ نیند نگری کہتے ہیں' اس نگری پر ایک بادشاہ راج کیا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا لال بادشاہ۔ بڑا خوب صورت' بڑا ہنس مکھ بہت بانکا' بہت سجیلا۔"

"تمہاری طرح۔" گوری بستر کی چادر پر انگلی پھیرتے ہوئے یوں بولی جیسے کانسی کے کٹورے سے چھلا مس کر گیا ہو۔

دولھا ہنس دیا اور گوری کی لال لال پوروں کو اپنی دودھ ایسی پوروں سے ٹٹول کر بولا "تو کرنا خدا کا کیا ہوا گوری کہ ایک دن لال بادشاہ شکار کھیلنے ایک جنگل میں جا نکلا اور......"

ابھی کہانی نصف تک پہنچی تھی۔ ابھی لال بادشاہ نے سبز پری کا ہاتھ اپنے ہاتھ ہی میں لیا تھا کہ دروازے کی جھریوں سے صبح کا ذب جھانکی۔ دولھا چونک کر بولا۔ "ارے صبح ہو گئی۔"

"نہیں شام ہو گی۔" گوری نے بھولپن سے کہا۔

اچک کر دولھا نے دروازہ کھولا۔ پلٹ کر مسکرایا اور پھر باہر نکل گیا اور گوری نے اتنی لمبی انگڑائی لی جیسے پورب میں انگڑائی لیتی ہوئی صبح کا منہ نوچ لے گی۔ تکیے میں سر چھپا کر کہنے لگی "ہائے ری نوری بہن! تو کتنی ابھاگن ہے۔

پڑی ہو گی ٹوٹے کھٹولے پر گٹھڑی بن کر ـــــــ اور یہاں تیری گوری تنگرفی پایوں والے پلنگ پر ـــــــ مہندی کی خوشبو سے بسے ہوئے کمرے میں ـــــــ اپنے بانکے سجیلے دولھا سے ـــــــ اف' کتنی سچی باتیں کہتی تھی تو؟ ـــــــ"

اس نے مسکرا کر دیئے کی پیلی روشنی میں اپنی لال ہتھیلیاں دیکھیں اور اپنے تپے ہوئے چہرے پر ہاتھ مل کر بولی۔ "کاش! اس وقت یہاں نوری ہوتی ـــــــ یا کوئی آئینہ ہی ہوتا!"

✸ ✸ ✸

www.iqbalkalmati.blogspot.com

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

بڈھا

جب منڈیروں پر پھدکتی ہوئی چڑیاں ایک دم بھرر سے فضا میں ابھر جاتیں اور کھرلیوں کے قریب گھڑیاں بنے ہوئے بچھڑے اپنے لمبے لمبے کانوں کے آخری سرے ملا کر محرابیں سی بنا لیتے تو جھکی ہوئی دیواروں کے سائے میں بیٹھے ہوئے کسان مسکراتے اور خشک تمباکو کو ہتھیلیوں میں ملتے ہوئے یا کھیس کے دھاگوں میں بل ڈالتے ہوئے کہتے۔ "بابا عمرو کھانسا ہے!"

بابا عمرو کی کھانسی بہت گونجیلی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تانبے سے بنے ہوئے کنوئیں میں یکبارگی چند پتھر گر پڑے ہیں ——— وہ اپنے جھونپڑے کی چوکھٹ پر بیٹھا بکریوں کے بال بٹتا رہتا اور جب کھانستا تو پسلیوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیتا۔ اس زور سے تھوکتا کہ اس کی مونچھوں کے جھکے ہوئے بال لوہے کے مڑے ہوئے تار بن جاتے۔ خربوزے کے مرجھائے ہوئے چھلکوں کے سے گالوں پر جھریوں کا جال سا تن جاتا اور جھکی ہوئی بھوسلی بھوؤں کے نیچے سے ندی کنارے کے گول کنکروں کی سی آنکھوں پر پانی کی پتلی سی لہر تیر جاتی۔ پڑوسن کے بچے تالیاں بجاتے اور چلاتے۔ "بابا عمرو کھانسا ہے!" ——— بابا

عمرو کے کانوں میں ان چیخوں کی بھنک پڑ جاتی تو بکریوں کے بالوں کے گولے پر بے تابانہ انگلیاں پھیرتا۔ رسی میں اتنے بل ڈالتا کہ وہ تن کر ٹیڑھی ہو جاتی اور پھر پاس ہی بیٹھی ہوئی بلی کو گردن سے پکڑ کر اپنی جھولی میں بٹھا لیتا اور کہتا "بابا عمرو کیا کھانسا' بداری نے پٹارے سے ڈھکنا ہٹا دیا۔ چھچھوندر کہیں کے! دیکھوں گا میری عمر کو پہنچ کر تم کیسے نہیں کھانستے۔ میں بھی تو جب جوانی میں کھانستا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسا کہ کوئی طبلہ بجا رہا ہے۔"

اچانک پڑوس کی ایک لڑکی لپک کر گھر سے نکلتی اور جب بابا عمرو کو اپنے آپ سے سرگوشیاں کرتے دیکھتی تو آگے بڑھ کر کہتی۔ "بابا عمرو میں آگئی۔"

بابا عمرو چونک اٹھتا اور پھر اس کے لبوں پر ایسی جناتی مسکراہٹ نمودار ہونے لگتی جیسے نوٹے پھوٹے قبرستان میں چاندنی۔ کہتا "میں جانتا تھا میری ولیتو آئے گی۔ تو اتنی دیر تک کیا کرتی رہی ولیتو بٹیا؟"

"ہمارے گھر چاول پکے ہیں۔" ننھی ولیتو تالی بجا کر کہتی۔ "میٹھے چاول ——— لے آؤں تمہارے لیے؟ ہیں بابا عمرو؟"

"چاول قابض ہوتے ہیں۔" وہ ہونٹ سکیڑ کر کہتا اور جب لڑکی کے صاف چہرے پر انکار کے صدمے کا احساس شفق کی پھوار سی چھڑک دیتا تو وہ انداز گفتگو بدل کر کہتا۔ "پر ولیتو تیری خاطر مٹھی بھر لے لوں گا میں بھی۔ ولیتو بچی کا جی برا کروں' تو کہاں جاؤں میں بڈھا کھوسٹ؟"

ننھی ولیتو اچھلتی کودتی اپنے گھر میں گھس جاتی۔ گھڑے کے ڈھکنے پر مونگ کی کھچڑی ڈالے پلیٹتی اور بابا عمرو کے سامنے گھٹنوں پر ٹھوڑی رکھے' ہاتھوں کو پنڈلیوں پر لپیٹے بیٹھ جاتی۔ بابا عمرو چاولوں کے تصور کو مونگ میں بدلتے دیکھ کر یوں ہنستا جیسے نیا نیا رہٹ رک رک کر چل رہا ہو اور پھر اس کے قہقہے گونجیلی کھانسی میں تبدیل ہو جاتے۔ پسلیوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر سامنے

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

پڑوسی کی دیوار پر پٹاخ سے تھوک کر کہتا۔ "یہ چاول کہاں سے آئے نتھو؟"

"کرپالو کی دکان سے۔" ولیتو پلکیں جھپکا کر مسکراتی۔

اور بابا عمرو کہتا۔ "میں سمجھا ولیتو نے ولایت سے چاول منگائے ہیں!"

گاؤں بھر میں مشہور تھا کہ بابا عمرو کا دل بھٹیارن کے توے کی طرح کالا ہے۔ اس بڈھے نے کسی سے محبت نہیں کی۔ یہ دو زخی ہے دو زخی!

بابا عمرو نے محنت مزدوری کر کے جوانی گزاری۔ ادھیڑ عمر میں شادی کی۔ چار مہینوں کے بعد بیوی دق میں مبتلا ہو گئی اور جب مری تو بابا عمرو کو خدا کا شکر ادا کرتے سنا گیا۔ کہتے ہیں' بیوی کو دفنا کر جب وہ گاؤں میں آیا تو سیدھا مسجد میں جا گھسا۔ شکرانے کے نفل ادا کئے اور ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں دعا کی۔

"میرے اللہ! تو بڑا بے پروا ہے اس لیے شکایت فضول ہے۔ تو جو کرتا ہے' اچھا کرتا ہے۔ تیری مرضی یہی تھی تو میں کون ہوتا ہوں ناک بھوں چڑھانے والا۔ شکر ہے تیرا۔ شکر ہے۔ شکر ہے!"

مولوی جی نے نماز جنازہ کے روپوں کو جیب میں ٹٹول کر کہا۔ "اسے کہتے ہیں توکّل!"

اور کسان جو توکّل کا مطلب نہیں جانتے تھے' بولے۔ "دل ہی کو کلمہ ہو گیا کم بخت کا۔ کچھ آنچ ہوتی اس میں تو جوانی میں بیاہ کر لیتا۔ اب تک بچے جوان ہوتے' وہ کماتے یہ کھاتا اور اللہ کا نام جپتا۔ بے وقوف ہے' سودائی ہے' سڑی ہے' بھوت کا سایہ ہے بے چارے پر!"

بابا عمرو نے زندگی بھر میں تین چیزوں سے محبت کی' خدا سے' ننھی ولیتو سے اور بوڑھی بلی شکری سے! جوانی میں ایک لڑکی سے انس پیدا ہوا ہی تھا کہ وہ پردیس میں بیاہ دی گئی اور محبت کی نودمیدہ کلی بابا عمرو کے دل میں گھٹ کر مرجھائی اور خاکستر بن کر رہ گئی۔

کبھی کبھی مسجد کی دیواریں لیپ آتا۔ گلیوں سے کنکر ہٹاتا رہتا۔ مسافروں کے لیے گھر گھر سے روٹی مانگتا۔ گاؤں کی معاشرتی زندگی میں اس کا صرف یہی دخل تھا کہ کوئی مرے تو جنازے کو کاندھا دے لے۔ کوئی بیاہا جائے تو دعائے خیر میں شریک ہو کر مٹھی بھر تل اور شکر لے اور ننھے بچوں میں بانٹ دے۔ گاؤں کا کنواں صاف کیا جائے تو جگت پر آکر بیٹھ رہے۔ رسی بٹتا رہے اور گنگناتا رہے۔ "لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ" اسے نہ سرما کی راتوں میں چوپال کی محفلیں لبھا سکتی تھیں' نہ ساون کے دنوں میں کھلیانوں کی سنگیت سبھائیں۔ اس کی کہانی گاؤں والوں کو اس کے وجود سے منکر نہ ہونے دیتی تھی ورنہ وہ گاؤں میں رہ کر بھی گاؤں میں نہ تھا۔

جب رات کا اندھیرا اپنے پوربی آنچل کو پو کے چشمے میں بھگو لیتا اور کائنات کی نیندوں میں انگڑائیاں کسمسانے لگتیں' تو بابا عمرو آنکھیں کھولتا اور دیمک خوردہ دروازے کے رخنوں میں دھندلے اجالوں کو مسکراتا دیکھتا تو آدھے گنجے سر پر ہاتھ پھیر کر کلمہ پڑھتا۔ خرخراتی شکری کو بغل سے نکال کر پائنتی پر بٹھا دیتا۔ کونے میں ایک گھڑے سے کوزہ بھرتا۔ وضو کرتا اور نماز پڑھتا۔ وہ کہا کرتا تھا "صبح کی نماز پڑھ لو تو سمجھو اللہ کی نگری میں داخل ہو گئے۔ دوسری نمازوں کی توفیق ہو تو پڑھو۔ پر ہمیں تو اللہ کی نگری کا ایک کونہ چاہیے۔ جیسے یہاں رہے ویسے وہاں بھی کہیں سمٹے پڑے رہیں گے۔ بس صبح کی نماز قضا نہ ہو۔"

جب شفق کا سیلاب مدھم پڑ جاتا اور منڈیروں اور پیڑوں پر چڑیاں چہچہاتیں تو وہ کمر پر ہاتھ باندھے قریب کے کھیتوں میں گھومنے نکل جاتا۔ کبھی کبھی شکری بھی اس کے ساتھ ہو لیتی۔ مینڈوں کے سوراخوں کو سونگھتی' نرم نرم گھاس پر لوٹتی اور پھر بابا عمرو کے پاؤں سے لپٹ کر اس کے ٹخنوں سے اپنے ریشمیں پنجے رگڑتی۔ بابا عمرو مسکرا کر کہتا۔ "ہٹ جا شکری!" ——— اور جب

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

شکری لپک کر کھیت کے پرلے سرے پر پہنچتی اور لمبی تھرتھراتی میاؤں کرتی' تو بابا عمرو ہنس کر کہتا۔ "شریر!"

واپس آکر آٹا گوندھتا' روٹی پکاتا اور پیاز' گڑیا ویتو کے ہاں کی دال سے کھانا کھاتا۔ پچھلی کمائی میں سے کبھی کبھی ایک پیسہ نکالتا اور کرپالو کی دکان پر سے شکر بھی لے آتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر رسیاں بٹتا۔ فضا میں تیرتی ہوئی ابابیلوں کو دیکھتا جو دور سے ننھی منی قوسیں سی معلوم ہوتیں۔ رسی بٹتے بٹتے تھک جاتا تو شکری کو گود میں بٹھا لیتا۔ گردن سے چمٹا لیتا۔ اس کے چاروں پنجے ہتھیلی پر جما کر اسے نچاتا اور پھر اس کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہتا۔

"شکری' تو بچی کچی شکر چاٹتے چاٹتے شریر ہو گئی ہے' میاؤں کرتی ہے؟ مسمسی کہیں کی۔ دیکھ چڑیاں نہ کھایا کر۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس روز تو نے چڑیا کھائی تجھے بدہضمی ضرور ہوئی۔ میرے ساتھ ایک دو لقمے زہر مار کر لیا کر اور اللہ اللہ کیا کر۔ سمجھی؟" ——— شکری آنکھوں کو نیم وا کر کے ایک بہت لمبی میاؤں کرتی اور اپنا جسم بابا عمرو کے مرجھائے ہوئے بازو سے رگڑتی۔ بابا عمرو خوش ہو کر ہنستا اور کھانستا۔ نیا نیا ہٹ رک رک کر چلنے لگتا۔ تانبے کے کنوئیں میں پتھر لڑھکنے لگتے۔ ویتو آنکلتی تو اس سے عجیب عجیب باتیں کرتا۔ "نھو' تو نے مجھے رات کے بار یاد کیا؟"

ویتو اس کے گھٹنے پر ٹھوڑی ٹیک کر کہتی۔ "دس بار۔ بیس بار' چار بار۔"

وہ ہنستا تو ویتو کہتی۔ "بابا عمرو' میں نے نئی گڑیا بنائی ہے۔ دکھاؤں؟ بابا عمرو! میری نئی گڑیا ہے نا؟ وہ بولتی ہے' ہے نا بابا عمرو؟ وہ کہتی ہے بابا عمرو بڑا اچھا بابا عمرو ہے!"

"ٹھیک کہتی ہے تمہاری گڑیا۔" بابا عمرو کہتا۔ "بابا عمرو سچ مچ بہت ہی اچھا بابا عمرو ہے۔ پر تو خود کیا سمجھتی ہے بابا عمرو کو؟ ——— بتا ——— بابا عمرو

کیسا ہے؟"

"بابا عمرو بابا عمرو ہے بس!" وہ کچھ سوچ کر کہتی "عید کب آئے گی؟ ہیں بابا عمرو؟"

"بابا عمرو انگلیوں پر حساب کر کے کہتا۔ "بس کوئی دس دن کم پانچ مہینے بعد۔"

اور ننھی ویتو ہونٹ سکیڑ کر کہتی۔ "کل کیوں نہیں آتی بابا عمرو؟ ہم تو کل عید منائیں گے۔"

"کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟" بابا عمرو رسی بٹنا بھول جاتا۔ "ابھی کیوں نہ منالیں۔ میں اس ٹینے پر جھولا ڈال دوں گا تمہیں۔ تم گھر سے پکا لانا حلوہ۔ بس بس کرتا سوجی کا حلوہ ——— تم پینگ بڑھانا میں حلوہ کھاؤں گا۔"

"میں بھی کھاؤں گی حلوہ بابا عمرو!" ویتو بابا عمرو کے کاندھوں پر اپنی کہنیاں ٹیک دیتی۔

بابا عمرو کہتا۔ "اچھا تو میں پینگ بڑھاؤں گا اور اگر میرے ہاتھ چھوٹ گئے تو جانتی ہو کہاں گروں گا؟ ——— حلوے پر!"

ویتو چہکنے لگتی اور پھر اچانک سنجیدہ ہو کر کہتی۔ "بابا عمرو ——— نئے نئے کپڑے بھی ہوں گے۔ ہے نا؟"

"ہاں۔"

"اور گڑیاں؟"

"ہاں۔"

"اور پٹاخے؟"

"ہاں ہاں!"

"اور پھلجھڑیاں؟"

"ہاں ہاں پھلجھڑیاں بھی!"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

ویتو تالیاں بجاتی ناچتی گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پکارتی۔ "عید آگئی۔ بابا عمرو کہتا ہے! اچھا بابا عمرو!"

شام پڑے تک ویتو اور شکری اس کا دل لبھاتیں۔ اندھیرا پڑتے ہی وہ کھانا کھاتا۔ کڑوے تیل کا دیا جلا کر لا الٰہ الا اللہ کا ورد کرتا اور جب سونے لگتا تو پکارتا۔ "شکری بی، ہے شکری بی!"

"میاؤں۔" چوکھٹ پر سے آواز آتی۔

"اوپر آجا۔" بابا عمرو پیار سے کہتا۔

شکری اچک کر بابا عمرو کی بغل میں گھس جاتی اور خر خر کی لوری اس پر غنودگی سی طاری کر دیتی۔

ایک روز وہ دیر تک گلی کے اس نکڑ کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا جہاں سے ویتو تالیاں بجاتی ناچتی نمودار ہوا کرتی تھی۔ جب سائے ڈھلنے لگے تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھا۔ رسی اندر کھاٹ پر پھینک دی اور ویتو کے گھر کی طرف چل دیا۔ شکری اس کے ساتھ ساتھ تھی۔

آنگن میں قدم دھرا تو دیکھا کہ ویتو کھاٹ پر پڑی کراہ رہی ہے۔ اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا تسبیح گھما رہا ہے اور اس کی ماں قریب ہی الاؤ پر اینٹ کا ایک ٹکڑا گرم کر رہی ہے۔

ویتو کا باپ کہہ رہا تھا۔ "ابھی بلا لاتا ہوں بابا عمرو کو۔ پر اس کی کھانسی بڑی خراب ہے نا۔ تمہیں نیند نہیں آئے گی۔"

"میں آگیا ہوں ننھو۔ میں بالکل نہ کھانسوں گا یہاں۔" بابا عمرو شکری کو اپنے پاؤں سے الگ کرتے ہوئے بولا۔

ویتو مسکرانے لگی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بولی۔ "بابا عمرو بڑا اچھا بابا عمرو ہے۔"

بابا عمرو کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بولا۔ "میں حیران تھا ویتو بیٹی نے آج

میری خبر کیوں نہ لی اسی فکر میں کئی بار رسی کو الٹے بل دیتا رہا۔ کئی بار شکری نے بھی ایسی میاؤں کی جیسے ویتو کو پکار رہی ہے۔ واہ ری ننھو، تم بیمار ہو گئیں اور مجھے پتہ نہ چلا، کیا ہو گیا اسے؟"

ویتو کا باپ بولا۔ "کل شام سے پیٹ میں درد کی شکایت کر رہی تھی۔ صبح کو اٹھی تو بخار سے تپ رہا تھا سارا جسم۔ کئی بار تمہیں یاد کیا۔ پر میں نے کہا تم پریشان ہو گے۔ کب سے تمہارے نام کی رٹ لگا رکھی ہے، کہتی ہے بابا عمرو بڑا اچھا بابا عمرو ہے۔ بابا عمرو ہمیں پھلجھڑیاں لاوے گا۔"

"ہاں ہاں پھلجھڑیاں! بابا عمرو پھلجھڑیاں لا دو نا۔" ویتو نے اپنا تپتا ہوا ننھا ہاتھ بابا عمرو کی مرجھائی ہوئی انگلیوں پر رکھ دیا۔

ویتو کا باپ بولا۔ "کرپالو کی دکان پر پھلجھڑیاں ہیں نہیں۔ مسجد کی پرلی طرف گاموں کے بیٹے وارث نے دکان کھولی ہے۔ پر گڑ اور تمباکو کے سوا اور دھرا کیا ہے وہاں۔ قصبے میں کوئی جانے والا ملتا نہیں۔ اور ویتو ہے کہ بابا عمرو اور پھلجھڑیوں کو بھولتی ہی نہیں۔ بابا عمرو تو مل گیا اسے۔ اب پھلجھڑیاں کہاں سے آئیں؟"

"قصبے سے۔" بابا عمرو بولا۔

"پر لائے گا کون؟"

"میں۔"

"تم؟"

"ہاں ہاں میں۔"

"پر بابا! وہ گھنا ٹوپ بادل اٹھ رہا ہے اتر سے —— میں تو کہتا ہوں پل بھر میں جل تھل ایک ہو جائیں گے۔ تم بڈھے نڈھال آدمی، کہاں بھٹکتے پھرو گے؟"

اچانک ویتو پکاری۔ "بابا عمرو پھلجھڑیاں اچھی سی۔ بہت سی۔"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

"جو نیلے پیلے تارے برسائیں؟" بابا عمرو ویسٹو پر جھک گیا۔

"ہاں ہاں بابا عمرو!"

"جو رات کو دن کر دیں؟ ——"

"ہوں۔"

"جو کرپالو کی دکان جلا دیں؟"

"ہاں ایسی ہی۔ کرپالو بڑا برا ہے۔ بابا عمرو بڑا اچھا ہے۔"

"تو میں ابھی آیا۔"

بابا عمرو اٹھا۔ شکری اس کے ساتھ ہولی۔ ویسٹو کے ماں باپ نے اسے بہتیرا سمجھایا مگر وہ بولا۔ "چار ہی تو قدم ہیں' اور اگر ویسٹو کے لیے مجھے ولایت بھی جانا پڑے تو سمندروں کو چیرتا نکل جاؤں گا۔ میں ایسا گیا گزرا نہیں۔ اچھا بھلا ہوں۔ کھانسی نہ ہوتی تو قرآن مجید کی قسم لاہور سے ہو آتا ایک دن میں۔"

اور جب ویسٹو کے باپ نے اسے پھلجھڑیوں کے لیے رقم دینا چاہی تو وہ بے تابانہ ہاتھ جھٹک کر بولا۔ "میرے من میں جو بات آئی ہے وہ کہنے کی نہیں ورنہ کہہ دیتا۔ میں تمہارے لیے غیر سہی' ویسٹو کے لیے غیر نہیں۔"

جھونپڑے میں پہنچ کر اپنی پونجی سے اٹھنی نکالی۔ شکری کو بڑی مشکل سے اندر بٹھایا اور دروازہ بند کر کے قصبے کو چل دیا۔

ابھی وہ گاؤں سے ایک ہی کوس دور گیا ہو گا کہ تیز ہوا سے درخت انگڑائیاں لینے لگے۔ خشک پتے کھڑکھڑاتے ہوئے ٹوٹے اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ بادل دھاڑا اور بوندا باندی ہونے لگی مگر بابا عمرو لمبے لمبے ڈگ بھرتا' عصا ٹیکتا بڑھتا چلا گیا اور جب قصبے میں پہنچا تو ٹھٹھر رہا تھا۔ اٹھنی کی پھلجھڑیاں خرید کر چادر میں لپیٹیں اور تھم کے کونے میں اڑس کر پلٹا۔ یوں چلا جیسے بیس بائیس سال کا گھبرو اڑا جا رہا ہو۔ گاؤں کے قریب برساتی ندی گرج رہی تھی۔ پھلجھڑیوں کو گیڑی میں لپیٹ کر چکراتے ہوئے پانی کو چیر گیا۔ ابھی

گاؤں میں نہیں پہنچنے پایا تھا کہ گھٹا نے ایک دم اپنا دامن نچوڑ دیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا' جیسے آسمانوں سے سمندر انڈیل دیئے گئے ہیں۔ بوندوں کی جگہ آبشار گرنے لگے۔

بابا عمر کو پھلجھڑیوں کی اتنی فکر تھی کہ بدن پر صرف تھم کو رہنے دیا اور باقی سب کپڑوں میں پھلجھڑیوں کو لپیٹ لیا۔ کبھی بغل میں دباتا' کبھی مٹھی میں جکڑ لیتا' پھسلتا تو پھلجھڑیوں والا ہاتھ اوپر ہی رہتا۔ جب وہ گاؤں میں پہنچا تو چوپال کے دروازے پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے زور زور سے قہقہے لگائے اور بولے۔ "بڈھا ویسے ہی گھناؤنا ہوتا ہے' پر جب بھیگ جائے تو توبہ —— بالکل بھوت!"

بابا عمرو کوئی جواب دینے کے لیے ٹھٹکا مگر فوراً اس کے دماغ میں پھلجھڑیاں چھوٹنے لگیں۔ قدم بڑھائے اور جب ویسٹو کے گھر پہنچا تو دہلیز الانگتے ہی پوچھا۔ "کیسی ہے نتھو؟"

اور پھر ویسٹو کو مسکراتا دیکھ کر اس نے پھلجھڑیوں پر لپیٹے ہوئے کپڑے کھولے۔ سولہ پھلجھڑیوں کا انبار سا ویسٹو کے سامنے رکھ دیا۔ داڑھی سے پانی نچوڑ کر بولا۔ "چھوڑوں ایک پھلجھڑی؟ —— دیا سلائی دینا بھیا!"

ویسٹو کے ماں باپ بڈھے کی حالت دیکھ کر بھونچکا سے رہ گئے تھے۔ اس کے اردگرد ننھی ننھی ندیاں بل کھاتی فرش کے چاروں طرف رینگی جا رہی تھیں۔ سر کے بچے کھچے بالوں کا پانی اکٹھا ہو کر اس کی ناک کے بانسے پر سے چاندی کا ایک تار بنا تا اس کے کپکپاتے ہوئے سینے پر گر رہا تھا۔ ویسٹو کی ماں نے بڑھ کر دیا سلائی کی ڈبیا اٹھا دی۔ باپ نے بابا عمرو کے قریب آ کر کہا۔

"پر بابا! تم تو آگ تو سینک لو۔ ٹھٹھر رہے ہو۔ نیلے پڑ رہے ہو۔"

"کون ٹھٹھر رہا ہے؟ کون نیلا پڑ رہا ہے؟" بابا عمرو دیا سلائی جلا کر بولا۔ "واہ کیوں ری نتھو؟" —— کانپتے ہاتھ بڑی مشکل سے دیا سلائی اور پھلجھڑی کو ایک دوسرے کے قریب لائے اور جب پھلجھڑی چھوٹی تو بابا عمرو کو وہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

ہنسی چھوٹی' وہ ہنسی چھوٹی کہ چہکتی ہوئی دیبتو کے ہاتھ میں پھلجھڑیاں تھما کر زمین پر بیٹھ گیا اور جب ہنسی نے گونجیلی کھانسی کی شکل اختیار کر لی' تو وہ سینے کو دونوں ہاتھوں سے دباتا اٹھا اور بولا۔ "دیبتو بیٹا! مجھے تو کھانسی آنے لگی۔ کل صبح پھر آؤں گا——— ہیں نھو؟"

"بابا عمرو بڑا اچھا ہے۔" دیبتو بستر پر اٹھ بیٹھی۔ "بابا عمرو! ایک پھلجھڑی تم بھی لے لو۔"

ہنستا' کانپتا' کھانستا' وہ دیبتو کے قریب آیا۔ پھلجھڑی لے کر مٹھی میں دبائی اور اپنی جھونپڑی کو چل دیا جہاں شکری اپنے نکیلے پنجوں سے دروازے کو لگاتار کھرچ رہی تھی۔

آدھی رات تک دیبتو کا بخار بھی اتر گیا اور درد بھی رک گیا اور جب صبح کو اٹھی تو بابا عمرو کے ہاں جانے کو مچل پڑی۔ باپ نے اسے اٹھایا اور بابا عمرو کے پاس لے چلا۔

جھونپڑے کا دروازہ کھلا تھا۔ دونوں بابا عمرو کے قریب پہنچے تو ایک عجیب سی مکھی بابا عمرو کے ادھ کھلے منہ سے نکلی اور اس کے چہرے کا طواف کرتی دیبتو کے سر سے ٹکراتی دروازے سے باہر نکل گئی۔ بابا عمرو کے پیٹ پر بیٹھی ہوئی بلی نے زور سے میاؤں کی اور پنجہ مار کر بابا عمرو کی داڑھی میں پھنسی ہوئی پھلجھڑی کو نیچے گرا دیا۔

کانی آنکھ

چوہدری نورنگ کی ایک آنکھ کانی کیونکر ہوئی! یہ کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ ہر ملنے والے کو اس نے اپنی آنکھ کے بجھ جانے کی الگ وجہ بتائی تھی۔

وہ کہا کرتا تھا——— بچپن ہی سے رگ رگ میں چلبلاہٹ بھری تھی۔ سولہ سال کی عمر تھی اور ستائیس سال کے ایک کڑیل گھبرو سے کبڈی کھیلنے کی سوجھی۔ لنگوٹ کس کر جب میدان میں کودا ہوں اور ڈھول کے ارد گرد گھوم کر اور دایاں بازو تان کر "یا علی" کا نعرہ لگایا ہے تو دیکھنے والوں نے کہا "بجلی نے انسان کا روپ دھارا ہے!" ادھر سے میرے مقابلے والا نوجوان بھی——— خدا جھوٹ نہ بلوائے تو———اچھے خاصے دبدبے سے نکلا۔ مجھ پر چیتے کی طرح جھپٹا۔ اتنی بڑی بڑی آنکھیں نکالتا جب وہ میرے قریب آیا اور ہاتھ بڑھایا ہے گردن پر ضرب لگانے کے لیے' تو میں نے ریڑھ کی ہڈی کے بالکل بیچوں بیچ گھونسا جما دیا۔ بچھ گیا بے چارا زمین پر۔ میں اپنی پگڑی کے دونوں طرے درست کرتا جب اپنے ساتھیوں میں پہنچا تو ایک بولا "ارے نورنگ! تمہاری آنکھ؟" "میری آنکھ؟" میں نے کہا۔ ہاتھ لگایا تو اوسان تختوں میں جا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

گرے۔ لاہور کے بڑے ہسپتال میں علاج کرایا۔ ساڑھے سات سو روپے فیس دی۔ ڈاکٹر کہنے لگے۔ "مصنوعی آنکھ لگوالو۔ صرف پانسو لگیں گے۔" ——— میں نے کہا "چاہے پانچ ہزار لگیں' یہاں ہاتھ کے میل کی پروا کوئی تھوڑی کرتا ہے۔ پر میں اپنے کانا ہونے کا اشتہار نہیں دینا چاہتا۔ بس بخشئے۔"

چودھری نورنگ یہاں پہنچ کر خاموش ہو جاتا اور اپنے مخاطب کو منتظر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے حقے کی نے سے لٹکتے ہوئے دھاگوں کا جائزہ لینے لگتا۔ عام طور پر مخاطب پوچھتا "اور آپ کے مقابلے والا جوان؟"

چودھری تسلی کی گہری سانس لیتا اور مسکرا کر کہتا۔ "اس کی ریڑھ کی ہڈی چانول چانول ہو گئی۔ ہسپتال اٹھا کر لے گئے ——— یہاں خیراتی ہسپتال میں ——— دوسرے دن اللہ میاں کے ہاں سدھار گیا بے چارہ۔"

اور اگر مخاطب پوچھ لیتا۔ "کیا نام تھا اس کا؟"

تو چودھری کی سانولی رنگت پر کالکھ پھر جاتی۔ گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر کہتا۔ "ولیر خاں۔"

سننے والے حیران رہ جاتے کیونکہ کبڈی کی تاریخ میں ولیر خاں نامی کھلاڑی کا ذکر کبھی نہیں آیا تھا۔

ایک بار چودھری کے ہاں انجمن امداد باہمی کا سب انسپکٹر مہمان تھا۔ چوپال پر دہقانوں کا ہجوم تھا۔ سب انسپکٹر نے چودھری سے کچھ سرگوشی کی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا "واہ خواجہ صاحب! یہ بھی کوئی پردے کی بات ہے! سارا علاقہ جانتا ہے کہ میری جوانی میں یہاں فساد ہو گیا تھا۔ اُدھر سے چوبیس جوان اور اِدھر سے صرف سات۔ میں ان میں کم عمر تھا مگر لاٹھی لے کر دشمنوں کی صف میں گھسا ہوں تو ڈھیر لگا دیئے تڑپتے ہوئے جوانوں کے۔ گرتے ہوئے ایک جوان کے نیزے کی انی میری پتلی سے ذرا چھو گئی۔ لاہور کے بڑے ہسپتال میں پونے نو سو روپیہ فیس دی۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔"

www.iqbalkalmati.blogspot.com

ہمیشہ کی طرح چودھری یہاں پہنچ کر رک گیا اور جب سب انسپکٹر نے پوچھا۔ "دوسری پارٹی والے؟"

"دوسری پارٹی والے؟" چودھری مسکرایا۔ "سات وہیں مر گئے اور دو نے ہسپتال میں جا کر دم توڑ دیا ——— یہاں خیراتی ہسپتال میں ——— دعویٰ ہوا ——— مقدمہ چلا' بلوے کا مقدمہ قرار پایا۔ میرے ساتھیوں کو چار چار سال قید کی سزا ہوئی اور میں بچ نکلا۔"

"کیسے؟" سب انسپکٹر نے اپنے پیلے بستے پر کہنی ٹیک کر پوچھا۔

چودھری کی سانولی رنگت میں چمک سی آ گئی۔ کھنکار کر بولا۔ "میں نے ڈاکٹر سے چٹھی لے لی۔ دس تاریخ کو بلوہ ہوا تھا اور چٹھی کہتی تھی کہ میں آٹھ تاریخ سے ہسپتال میں تھا۔ دشمنوں کے وکیل کی چیں بول گئی۔ کہنے لگا۔ "جھوٹی چٹھی ہے۔" میں نے کہا۔ "ہاں ہاں تیرے باوا نے جو دی ہے۔ جھوٹی ہے! ——— میرا تو خدا کی قسم ہاتھ اٹھ جاتا پر منصف نے گرج کر کہا۔ اے وکیلا چپ رہ۔ ہم چودھری نورنگ کو برسوں سے جانتے ہیں۔ اس کے خاندان پر حرف نہ آئے ورنہ ہتک عزت کا دعویٰ کر دیا جائے گا' وکیل میاں کا قلم ٹھک سے فرش پر جا گرا۔"

یہاں پہنچ کر اس نے سب انسپکٹر کے ہاتھ پر ہاتھ مارا' پوری قوت سے قہقہہ لگایا اور ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا "بھئی لے آؤ نا اپنی اپنی قسطیں۔ کچھ وصولی ہو جائے تو کھانا وانا کھائیں خواجہ صاحب! میری باتیں جانے کیوں لمبی ہو جاتی ہیں کم بخت۔"

جنی اگر کوئی بلوے کی دوسری پارٹی والوں کے نام پوچھنے کی جرات بھی کرے تو بات کو ختم ہوتا دیکھ کر چپ ہو رہے۔ پر جو اصل بات تھی وہ چھپی نہ رہ سکی۔ مجھے اپنے دوست ربانی کی ماں نے یہ قصہ سنایا۔ ایک جھکے ہوئے چھپر تلے بیٹھی وہ چرخہ کات رہی تھی کہ میں اس کے پاس گیا اور کہا "بیل تو

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

ایک دن میں بک جاتا ہے خالہ۔ اتنے دن کیوں لگا دیئے ربانی نے؟ میں تو تھک گیا ہوں تیرے بیٹے کی راہ تکتے تکتے۔"

وہ چرخے کی ہتھی کو ہتھیلی سے ٹھونکتی ہوئی بولی۔ "آجائے گا۔ اونے پونے بیچنے تو وہ بیل نہیں لے گیا۔ علاقے بھر میں گھوم جاؤ تو ایسا بیل دیکھنے میں نہ آئے گا۔ سودا چکانے میں کچھ دیر لگے گی۔ آجائے گا۔"

میں نے کہا۔ "گاؤں میں کوئی شناسا ہے نہیں کہ اس کے پاس بیٹھوں۔ جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں' شہری آیا ہے یعنی موروں میں کوا آن بیٹھا ہے۔ عجیب لوگ ہیں۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہوں تو میں بھی دیہاتی' پر یہ عینک اور یہ ادھ کتری مونچھیں۔ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہیں پڑا رہتا ہوں' وقت نہیں گزرتا' خالہ تو کوئی کہانی ہی سنا!"

وہ چرخے کی گھوں گھوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی۔ "واہ تیری عمر ہے کہانی سننے کی؟ تو تو مجھے اچھا بھلا سیانا لگتا ہے۔ میں تیری خاطر تو بہت کرتی ہوں بیٹا! میں تو سمجھتی ہوں ربانی بیٹا میرے پاس بیٹھا ہے پر تو تو گھبرا چلا ہے۔ اب تیرا جی کیسے بہلاؤں؟"

میں نے کہا۔ "کوئی کہانی سنا کر۔"

چرخے کو پرے دھکیل کر بولی۔ "کہنا تو نہیں چاہئے' پر تو ہے بڑا ضدی بالکل ربانی کی طرح پرسوں میں نے ہزار بار کہا۔ حلوہ پکے گا' حلوہ پکے گا' پر تو نے بھی مسور کی دال کی ایسی رٹ لگائی کہ آخر کھا کر ہی دم لیا——" کچھ سوچ کر بولی۔ "شام کو کھانے کے بعد ایک قصہ سناؤں گی تجھے۔ بس؟"

"بس۔" میں نے خوش ہو کر کہا۔ "اچھی خالہ!"

اور جب شام کو چنوں کی دال اور پراٹھوں سے پیٹ بھر کر میں نے بوڑھی خالہ کو اس کا وعدہ یاد دلایا تو وہ ہنس کر بولی۔ "ارے! بھولا نہیں تو؟ اچھا بتا' جگ بیتی کہ آپ بیتی؟"

"آپ بیتی۔" میں نے فوراً جواب دیا۔

"اور اگر آپ بیتی کوئی نہ ہو؟" وہ مسکرائی۔

"تو جگ بیتی۔" میں نے ہنس کر کہا۔

"اچھا تو لے سن۔ تو نے گاؤں کے بوڑھے چودھری کو دیکھا ہے؟ جانتا ہے اس کی آنکھ کانی کیسے ہوئی؟ تو کیا جانے! کوئی بھی نہیں جانتا۔ صرف خدا جانتا ہے یا میں جانتی ہوں۔ مدتوں کا ذکر ہے۔ چودھری نیا نیا جوان ہو رہا تھا۔ نیلی پگڑی پر ابرق چھڑک کر جب طرہ جماتا تھا سر پر اور لٹھے کے تہمد کو کھڑکھڑاتا' زریں جوتے کو چرچراتا' جب گلیوں میں فوں فاں کرتا گزرتا تو لوگ جل جاتے پر کیا کرتے! چودھری تھا۔ کوئی الٹی بات کر دیتے تو دوسرے دن پلس آدھمکتی۔

"شکل صورت کا ان دنوں بھی یہ ویسا ہی تھا۔ اب تو خون کم ہونے سے رنگت سانولی پڑ گئی ہے اس کی۔ ان دنوں بالکل کوا تھا۔ بس بات ساری یہی تھی کہ اچھے کپڑے پہنتا تھا اور خوشبو لگاتا تھا۔ ایک بار گلی میں اس کے کان سے عطر کی پھریری گر گئی۔ ایک لڑکی اسے اٹھا کر اپنی گڑیوں پر پھیرتی پھری۔ کہتے ہیں ایک سال تک گڑیوں سے مہک اٹھتی رہی۔ ولایت سے منگاتا تھا عطر۔ سو بڑا ایسا ویسا تھا!

"اسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ نام تھا اس کا—— اس کا نام —— بس رحمت ہی سمجھ لو—— رحمت اچھے کھاتے پیتے زمیندار کی بیٹی تھی۔ بلا کی خوبصورت اور غضب کی نیک۔ کسی کو آنکھ بھر کر دیکھتی تو راکھ کر سکتی تھی پر اس نے کسی کو آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہ تھا۔ اول تو گھر ہی میں پڑی رہتی اور جو بہت تیر مارتی تو پنگھٹ پر جا نکلتی۔ پر نظریں پاؤں کے انگوٹھوں پر جمی رہتیں۔ کہتے ہیں ایک بار اسکا ایک بال کنویں کی جگت پر گرا۔ جب وہ چلی گئی تو یہ بال ایک لڑکی کو ملا۔ کوئی کہتی' سونے کا تار ہے! کوئی کہتی ریشم کا دھاگا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

ہے۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا: رکھ دے ری اسے یہیں۔ کسی پری وری کا بال دکھتا ہے' لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ ——— سو ایسے بال تھے اس کے' اور اس کی آنکھیں اور ہونٹ اور دانت ——— اب کیا بتاؤں۔ اس عمر میں ایسی باتیں کرتے شرم آتی ہے بیٹا۔ تو نے کتابوں میں تصویریں دیکھی ہوں گی میموں کی؟ بس اسے بھی میم ہی سمجھ لے۔ پر ہاں۔ اس کی آنکھیں چودھری کے چہرے سے بھی زیادہ کالی تھیں۔ بس یہی فرق تھا میم میں اور اس میں ———

"ایک دن کا ذکر ہے' ایک لڑکے نے اسے چھیڑا۔ وہ چپ چاپ چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک ننھا سا کنکر اس کی پیٹھ پر آ گرا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ کھڑا ہنس رہا ہے اور ہاتھ جوڑ رہا ہے اور پتاشوں کی پوٹلی دکھا رہا ہے ——— رحمت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ' جوتا اتار کر لپکی اور اس کے سر پر تڑا تڑ کئی بادام توڑ دیئے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ لڑکے کو وہ بے بھاؤ کی پڑیں کہ ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر چت لیٹ گیا اور لڑکی کی دھاک بندھ گئی سارے گاؤں میں۔ جہاں سے گزرتی گھبرو راستہ چھوڑ دیتے ——— بڑے جلال والی لڑکی تھی۔

"اب چودھری کی سن! جوانی نے تو آگ لگا ہی رکھی تھی۔ اس لڑکی کے حسن نے آگ کو ہوا دی۔ اسکی جوانی دیوانی ہو گئی۔ تو ہنستا ہے بیٹا! سچ کہتی ہوں یہی کرتا تھا وہ۔ پر اس سے پوچھتا کون؟ کپڑے اتار کر بھی پھرتا تو کوئی انگلی نہ اٹھاتا۔ دولت والا تھا نا۔ اس نے بوڑھی دھوبنوں اور میراسنوں کے ہاتھ پیغام بھیجنے شروع کیے۔ نتیجہ سب کا یہ ہوتا کہ وہ جوتے کھا کر آتیں اور چودھری سے دونی چونی لے کر گھر جا بیٹھتیں۔ جو ایک بار پیغام لے کر گئی' اس نے پھر رحمت کے گھر کا رخ نہ کیا۔

"باتوں سے کام نہ چلا تو چودھری نے ایک اور چال چلی۔ ریشمی کپڑے اور شہری مٹھائیاں اور نرم چمڑے کے سلیپر اور سو سو کے نوٹ اور جانے کیا الا بلا بھیجنی شروع کیں۔ رحمت بے چاری گھبرا گئی۔ ماں مر چکی تھی۔ بھائی اور

باپ کو بتاتی نہیں تھی کہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ ایک بار جو غصہ آیا اسے تو ریشم کے کپڑوں کی پوٹلی لے کر بھڑکتے ہوئے تنور میں جھونک دی۔ پوٹلی لانے والی نے سر پیٹ لیا۔ بھاگی بھاگی نورنگ کے پاس گئی اور جب سارا حال کہہ سنایا تو چودھری کی دونوں آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بولا۔ "اب یوں کام نہیں چلے گا۔" اور پہلو سے کمانی والا چاقو نکال لیا۔

"پر یہ ساری فوں فاں بے کار تھی۔ جیتی جاگتی جان کے کلیجے میں چھرا گھونپنا ذرا دل گردے کی بات ہے اور چودھری کا اتنا حوصلہ کہاں؟ ظلم تو یہی تھا کہ اس کی جیب بھاری تھی۔ خالی ہوتی تو ایرق جھڑ جاتا تیلے طرے سے۔

"اب اس نے چوپال پر اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر رانجھا بننے کی کوشش کی۔ آہیں بھریں۔ فریادیں کیں۔ کہتے ہیں ان دنوں اس نے دوہے بھی بنائے۔ ایک دن رحمت گلی میں جا رہی تھی کہ چودھری نے دو چار آدمیوں کے سامنے کان پر ہاتھ رکھا اور ایک دوہا الاپ دیا اونچے سروں میں ۔

سدا نہ رہندا جوبن کالیاں اکھیاں دا
(کالی آنکھوں کا حسن سدا نہیں رہتا۔)

رحمت بے چاری بل ہی تو کھا گئی پر کیا کرتی۔ گھر آ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ بھائی اور باپ نے وجہ پوچھی پر کس منہ سے بتاتی۔ وہ پوچھتے یہ روتی' وہ بہلاتے یہ سسکتی' وہ دھمکاتے یہ تڑپ اٹھتی' اتفاق سے اسی وقت ایک شخص آیا اور دونوں کو الگ بلا کر سارا حال کہہ سنایا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دکھ سے نہیں' غصے سے۔ اس روز انہوں نے رحمت کو بتائے بغیر ایک ترکیب سوچی۔ ایک دھوبن کو گانٹھ لیا اپنے ساتھ۔ وہ چودھری کے پاس یہ پیغام لے کر چلی کہ رحمت کا دل پسیج گیا ہے۔ آج تک اس کی بے رخی

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

صرف دکھاوا تھی۔ اندر سے تو وہ جل کر کباب ہو چکی ہے بے چاری۔ تم آج آدھی رات کو بے دھڑک اس کے گھر چلے آنا۔ دروازہ کھلا ہوگا۔ کھٹکا نہ کرنا کہ کہیں اس کا بھائی نہ جاگ اٹھے۔ بھوسے والے کوٹھے کے کونے میں رحمت چھپی بیٹھی ہوگی تمہارے انتظار میں۔ آؤ اور جوانی کی بہار لوٹو۔

"دھوبن نے جب چودھری کو یہ پیغام دیا تو وہ پکارا۔ "سچ؟"

"دھوبن بولی "خدا کی قسم ——" جھوٹی قسم تھی پر دھوبن کی جیب میں دس روپے جو چھنچھنا رہے تھے۔

"بس اس روز آدھی رات کے وقت چودھری ریشمی کپڑے پہنے' طرہ جمائے بڑے ٹھاٹھ سے رحمت کے ہاں چلا۔ دروازہ کھلا تھا۔ بھوسے کے کوٹھے میں داخل ہوا تو کونے سے ایک سایہ اٹھا۔ چودھری کی سانس پر سانس چڑھی ہوئی تھی۔ رحمت سے لپٹنے کے لیے آگے بڑھا تو دوسرے کونے سے ایک اور سایہ ابھرا۔ لالٹین جل اٹھی۔ چودھری تڑپ کر پیچھے ہٹا مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ رحمت کے بھائی نے اسے اٹھا کر بھوسے پر گرا دیا اور اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا۔ چودھری نے پکارا۔ "میں تم سے ملنے آیا تھا میں نے کہا چچا اور بھیا کو مدتوں سے نہیں دیکھا!" پر رحمت کا بھائی بولا۔ "ہاں ہاں' ہم چوکیدار جو ہوئے کہ آدھی آدھی رات تک بیٹھے رہیں بیٹا نورنگ کے انتظار میں۔ اب زبان کو قابو میں رکھ اور دیکھ خدا کی قدرت!"

رحمت کے باپ نے ایک چھرا نکالا اور بسم اللہ پڑھ کر چودھری کی آنکھ کو دونوں انگلیوں سے کھولا اور "کرچ" سے چھرے کی نوک چبھو دی۔

"رحمت کے بھائی نے رحمت کو آواز دی اور جب وہ اندر آئی اور چودھری کی یہ حالت دیکھی' تو ڈر گئی بے چاری۔ اس کے بھائی نے چودھری سے پوچھا۔ "نورنگ بھیا کون ہے یہ؟" وہ تڑپ رہا تھا اوھ کٹے مرغے کی طرح۔ بولا "میری بہن!" —— کچھ اور کہنا چاہتا تھا پر رحمت کو باہر بھیج دیا

گیا اور چودھری سے کہا گیا۔ "اگر کوئی آواز نکالی تو دوسری آنکھ بھی جاتی رہے گی۔" —— پر آواز نکالنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ باپ بیٹا اٹھا کر اس کی ڈیوڑھی کی دہلیز پر رکھ آئے۔ دوسرے دن مشہور ہو گیا کہ چودھری نورنگ کی آنکھ میں تنکا چبھ گیا ہے۔ اسے لائل پور لے گئے —— خیراتی ہسپتال میں —— وہاں کا ڈاکٹر آنکھوں کا اچھا علاج کرتا تھا۔ چند مہینوں کے بعد چودھری واپس آیا تو آنکھوں پر کالے شیشوں والی عینک لگائے۔ اس کے بعد اس نے عشق کا نام تک نہ لیا۔ اپنے دوستوں میں بھی یہ مشہور کر دیا کہ وہ دوہے بنانا کیا جانے یہ تو سائیں علی حیدر کی سی حرنی کے کرشمے تھے!"

یہاں پہنچ کر بوڑھی خالہ رک گئی۔ میں اب تک دم بخود بیٹھا کہانی سنتا رہا تھا۔ اسے اچانک خاموش ہوتے دیکھا تو پوچھا۔ "اور خانہ اماں —— رحمت؟"

"رحمت؟" وہ چونک اٹھی۔ "وہ بیاہ دی گئی۔"

اور خانہ بی کی بچی کھچی پلکوں نے جھک کر اس کے جھریاں پڑے رخساروں پر مبہم سایوں کی لکیریں سی ڈال دیں۔ اگر لالٹین زیادہ روشن ہوتی تو شاید میں اس کے چہرے سے بہت کچھ اخذ کر سکتا۔

دوسرے روز میں چھاچھ پی کر سیدھا چوپال پر جا نکلا۔ چودھری اکیلا بیٹھا گنگنا رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر کہا۔ "کوئی دوہا گا رہے ہیں آپ؟ علی حیدر کا؟"

چونک پڑا اور مسکرا کر بولا۔ "آؤ صاحب! ربانی ابھی تک نہیں پلٹا کیا؟"

میں نے کہا۔ "نہیں جی۔ شاید آج آ نکلے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا تو میں نے کہا چلو آپ کے پاس ہو آؤں۔ سارے گاؤں میں صرف آپ ہی ہیں

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

جو پڑھے لکھوں کی سی باتیں کرتے ہیں۔"

چودھری کی کانی آنکھ پھڑک اٹھی۔ گلی میں سے ایک گھبرو گزر رہا تھا جس نے نیلے رنگ کی پگڑی پر ابرق چھڑک کر بہت لمبا طرہ جما رکھا تھا۔ چودھری پکارا "ہے چھوکرے، یہ نیلی پگڑیاں اور یہ ابرق اور یہ طرّے وُرّے اس گاؤں میں نہیں چلیں گے۔یہاں شریفوں کی بہو بیٹیاں رہتی ہیں۔ سمجھا؟ لفنگا کہیں کا؟"

گھبرو نے گھبرا کر طرے کو مروڑا اور کان پر لٹکا لیا، پلٹا اور ایک گلی میں مڑ گیا۔ چودھری نے پھولے ہوئے نتھنوں کو بڑی مشکل سے دبایا اور تن کر بولا۔ "چل نکلتے ہیں گلیوں میں رانجھے اور مہینوال بن کر۔ میں تو صاحب گنواروں میں گھرا بیٹھا ہوں۔صرف اس لیے کہ باپ دادا نے یہیں جاگیر چھوڑی۔ پچھلے دنوں تو میں نے تنگ آ کر لاہور والی ٹھنڈی سڑک پر بنگلہ خریدنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پر عزیزوں نے روک لیا۔ بولے وہاں کے رئیس برا مانیں گے۔"

چودھری کو اپنے خاص رنگ میں دیکھا تو میں نے جھٹ سوال کیا۔

"چودھری جی، آپ کی آنکھ کیسے گئی؟"

چودھری نے مسکرا کر کانی آنکھ کو ملا۔ "یہ جوانی کا کارنامہ ہے صاحب۔ میری عمر یہی کوئی بیس بائیس برس کی ہوگی۔ لاہور جا رہا تھا۔ لاٹ صاحب سے ملاقات کرنے۔میں پہلے درجے میں بیٹھا تھا۔ گاڑی چلی تو ایک صاحب بہادر اندر آیا اور مجھے جھنجھوڑ کر بولا۔ "تم اُور بیٹھو، ہم اور بیٹھے گا۔" میں نے کہا۔ "جا بے جا اپنی راہ لے۔ کسی پائدان میں بیٹھ جا! کیوں رئیسوں کے منہ آتا ہے!" ——— بس صاحب تڑپ ہی تو اٹھا۔ باؤلوں کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ میں بھی غافل تو تھا نہیں۔ اس زور سے ٹکر لگائی اس کے سینے میں کہ کم بخت کی پتلیاں اوپر چڑھ گئیں اور چاروں شانے چت گر پڑا۔ گرتے ہوئے جاتے اس کا ناخن لگ گیا میری آنکھ میں یا جانے چھری تھی، اس کے ہاتھ میں یا

کیا! پتلی میں درد سا ہوا۔ آئینے میں جا کر دیکھا تو ایک لال سی لکیر نظر آئی۔ لاہور کے بڑے ہسپتال میں سوا گیارہ سو روپے فیس دی۔ پر جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔"

میں نے کانی آنکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ "شکر ہے دوسری آنکھ سلامت رہی۔"

وہ چپ چاپ بیٹھا مجھے گھورنے لگا۔

"پر چودھری جی!" میں نے کہا۔

"جی۔" وہ پہلو بدل کر بولا۔

"پر چودھری جی۔ میں کچھ ڈاکٹری جانتا ہوں۔ مجھے تو یہ کسی تیز دھار آلے کی کارستانی معلوم ہوتی ہے۔"

چودھری کا رنگ فق ہو گیا۔ کھسیانا سا ہو کر ہنسا اور اٹھتے ہوئے بولا ——— "آپ بچے ہیں جی۔ آپ کیا جانیں یہ باتیں۔ اچھا تو شام کو ملیں گے۔ مجھے اب ایک ضروری کام ہے۔"

"مجھے بھی ایک ضروری کام ہے۔" میں نے کہا۔ "چند گھنٹوں کے لیے باہر کھیتوں میں گھومنا چاہتا ہوں، پر دھوپ بڑی تیز ہے۔ اگر کالے شیشوں والی عینک آپ کے پاس ہو تو عنایت کر دیجیے۔ شام کو واپس بھیج دوں گا۔"

چودھری کے ابرو کھنچ کر تقطے سے بن گئے۔ بولا۔ "نہیں صاحب میرے پاس ایسی عینک نہیں۔ کبھی پہنی ہو تو!"

میں نے کہا۔ "اچھا تو کھیتوں میں نہ سہی، گھر بیٹھے رہیں گے۔ ربانی کی ماں نے آج مجھے آپ بیتی سنانے کا وعدہ کیا ہے!"

"کیا؟" چودھری غضب ناک ہو کر پلٹا۔ میں لپک کر گلی میں آ چکا تھا۔ مجھے مسکراتے دیکھ کر بولا۔ "سوچ کر بات کر بیٹا! تو میرے گاؤں میں ہے۔ چٹنی بنوا دوں گا کھوپڑی کی۔ اور اپنی اس ہوتی سوتی سے جا کر کہہ دے کہ وہ

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

کبوتروں والے کھڈ کی رات بھول گئی جب میں نے؟ ——"

لیکن مجھے ایک گلی میں مڑتا دیکھ کر وہ صرف کھنکار کر رہ گیا۔

* * *

من کی ڈالی

جب چڑیا نیم کی ڈالی سے اڑ گئی تو ڈالی ڈولنے لگی اور ڈولتے ڈولتے تھم کر اپنے پتے تھرتھرانے لگی اور نیم کے نیچے بیٹھا ہوا تھکا ہارا مسافر سوچنے لگا کہ نیم کی ڈالی کیوں ڈولی اور ڈولتے ڈولتے کیوں تھم گئی اور اب تھم کر وہ اپنے پتے کیوں تھرا تھرا رہی ہے! سوچتے سوچتے اس کے گرد آلود ذہن پر تیز جھونکے سے چلنے لگے اور جب گرد اڑ گئی تو وہاں چند دھندلے دھندلے نقوش ابھرے اور مسافر کی آنکھوں کے سامنے گزرے ہوئے زمانے کے واقعات ناٹک کی طرح آنے اور جانے لگے!

بھدے چپل اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دیئے۔ پاؤں کی انگلیوں کو دبایا۔ سر سے پگڑی اتار کر جھاڑی اور اس کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ نیم کے گنجان پتوں سے پرے نیلے آسمان کی کترنیں سی بکھری ہوئی تھیں اور چڑیوں کا ایک غول ان کترنوں پر سے بے شمار گیندوں کی شکل میں لڑھکتا جا رہا تھا۔

اسے وہ دن یاد آنے لگے جب اس کے من کی ڈالی بھی ایک چنچل سی چڑیا کے بوجھ سے کانپنے لگی تھی۔ راجو کو وہ بچپن میں چڑیا ہی تو کہتا تھا۔ جب وہ

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

چر چر چوں چوں چر چر کی آواز نکالتی تو برہان ہنستے ہنستے ریت پر لوٹ جاتا اور پھر تالی بجا کر کہتا۔ "اری تو تو بالکل چڑیا کی سی بولی بولتی ہے' لے ذرا پھدک نا چڑیا کی طرح" ——— اور راجو سنہری ریت پر چڑیا کی طرح پھدکنے لگتی۔ اس کی ننھی سی رنگ برنگی اوڑھنی ہوا میں پھڑپھڑاتی۔ اس کے کھلے بال اس کے شانوں پر کروٹیں سی بدلتے اور جب وہ پھدکتے پھدکتے تھک جاتی تو ریت میں گھٹنے جما کر کہتی۔ "ہائے ری۔ میرے پر آج ٹوٹ رہے ہیں اور میرا گھونسلا ابھی کتنا دور ہے!"

"لا' میں تجھے اپنے پروں پر بٹھا کر لے جاؤں۔" برہان اچھل کر کہتا اور راجو کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر گول مول ٹیلوں میں بہت دیر تک دوڑتا رہتا اور جب تھک جاتا تو اسے نرم ریت پر پھینک کر کہتا۔ "تو کتنی بھاری ہے راجو! تو نے بہت باجرہ چگ لیا ہے آج۔"

"چر چر۔ چوں چوں۔" راجو ہونٹ سکیڑ کر چرچراتی اور پھر دونوں اتنا ہنستے کہ ان کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلتا اور پیٹ میں گرہیں سی پڑ جاتیں۔

لیکن اس نے اپنے من کی ڈالی تب ڈولتی محسوس کی جب وہ امرت سر کے ہائی اسکول سے انٹرنس پاس کر کے اور تین سال تک میونسپل کمیٹی میں کلرک رہ کر استعفا دینے کے بعد گاؤں واپس آیا۔ اس کی ملازمت کے دوران میں اس کے ابا چل بسے تھے اور اب گھر سے اتنا دور بیٹھے رہنا اور پھر اتنی قلیل تنخواہ پر صابر و شاکر رہنا اسے کچھ اچھا معلوم نہ ہوا۔ اس نے مستقبل کے بہت بڑے بڑے پروگرام بنائے۔ اپنی زمینوں پر باغ لگانے کی تجویزیں سوچیں اور کئی بار اسے اپنے سنتروں کے بے شمار ٹوکرے ننھے سے سٹیشن کے پلیٹ فارم پر ایک پہاڑی کی طرح ابھرتے محسوس ہوئے۔ اس نے بہت سے کنوئیں کھدوانے کے لیے اچھی اچھی جگہیں انتخاب کیں اور گاؤں کے بالکل قریب ان کو کھدوانے کی تجویز اس نے صرف اس لیے مسترد کر دی کہ وہاں لڑکے

لڑکیاں اکٹھے پانی بھریں گے اور مفت میں کوئی ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ خیالات کے ہجوم سے اس کا دماغ بوجھل سا ہو گیا تھا اور اس کو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی کھوپڑی میں گودے کی جگہ فولاد کے ٹکڑے کھڑکھڑا رہے ہیں۔

ریتلی پگڈنڈی پر اپنا چرمی سوٹ کیس ہاتھ میں لٹکائے وہ گاؤں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کوئی دو کھیت ادھر ہٹ کر ایک مینڈ پر اسے چند بچے کھیلتے نظر آئے۔ برہان کو دیکھ کر انہوں نے کھیلنا چھوڑ دیا اور انگلیاں دانتوں میں دابے' ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے۔ اور پھر تالیاں بجاتے ہوئے مینڈ پر سے اترے اور پرلے کھیت کی طرف جاتے ہوئے پکارے "نئے منشی جی آئے راجو بہن! ——— ہمارے مدرسے کے نئے منشی جی آئے۔"

اور پرلے کھیت سے راجو یوں اٹھی جیسے آسمان کے اندھیرے پس منظر پر کوئی تارا ٹوٹے برہان کی طرف دیکھ کر بولی۔ "ارے کیسے چلتا ہے تمہارا منشی۔ کیسے گھماتا ہے ٹانگوں کو۔ ریت سے گھبرا گیا ہے بے چارہ!"

ایک لڑکا بولا۔ "پر غریب کے ہاتھ میں صندوق ہے نا!"

دوسرا بولا۔ "اور دور سے بھی آ رہا ہے نا۔"

برہان یہ باتیں سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں بولا۔

"راجو! اری شریر چڑیا۔ مجھے پہچانا تک نہیں تم نے؟"

راجو حیران ہو کر جیسے اپنے آپ سے پوچھنے لگی۔ "کون؟" اور پھر تیزی سے پلکیں جھپکاتی ہنسنے لگی اور برہان کی طرف بھاگی۔ "ارے' تم؟ برہان؟" ——— لیکن وہ برہان کے قریب آئی تو رک گئی۔ چہرے پر شفق دوڑ گئی۔ نظریں نیچی ہو گئیں۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اس نے سر پر اوڑھنی جمائی اور گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ "اچھے ہو برہان؟"

اور برہان سوچنے لگا، جب تارے ٹوٹتے ہیں تو ایک جگہ رک نہیں جاتے بلکہ اپنے پیچھے لمبی سیمیں لکیریں چھوڑتے تھرکتے جاتے ہیں اور آخر

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

اندھیروں میں گھل جاتے ہیں۔ یہ عجیب ستارہ ہے کہ ٹوٹتے ہی ایک جگہ رک گیا ہے اور پہلے سے زیادہ تاباں ہو گیا ہے!

برہان کو چپ چاپ کھڑے دیکھ کر راجو پلٹی اور جاتے ہوئے بولی ——— "بڑا دماغ ہو گیا ہے تمہارا!"

برہان کو جیسے کسی نے چونکا دیا۔ "اری راجو! میں اچھا ہوں۔ بالکل اچھا ہوں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ ننھی منی چڑیا نے یہ نیا رنگ روپ کہاں سے پایا۔ تم تو خدا کی قسم پہچانی ہی نہیں جاتیں ——— راجو! تم کتنی بدل گئی ہو!"

راجو رک کر بولی۔ "اور تم نہیں بدلے؟ یہ انگریزی بال اور یہ کوٹ' اور یہ اتنا خوبصورت صندوق ——— اور پھر تمہاری چال کتنی بدل گئی ——— اور تمہارا دماغ کتنا بدل گیا کہ میرے سوال کا جواب دینے کے لیے تمہیں اتنا سوچنا پڑا۔"

بچے اب ان کے قریب آ گئے تھے۔ ایک بولا۔ "ارے۔ یہ تو باتیں کرنے لگے!"

"راجو۔ تو بڑی وہ ہے!"

"راجو! میں تیرے ابا کو بتاؤں گا۔"

"راجو! تو مسافروں سے باتیں کرتی ہے؟"

"تو منشی جی کو جانتی ہے راجو؟"

اور راجو بولی۔ "ابے جانتی ہوں۔ جاؤ ڈھنڈورا پیٹ دو سارے گاؤں میں۔ بالشت بھر کے لونڈے اور ہاتھ بھر کی زبان!"

لڑکے سہم گئے۔ برہان نے ہنس کر جیب سے چند سکے نکالے اور سب کو ایک ایک آنہ دے کر بولا۔ "لو۔ ریوڑیاں کھاؤ۔ مزے اڑاؤ اور دعا کرو کہ راجو کا غصہ ٹل جائے!"

بچے تو پیسے لے کر تتلیوں کی طرح مہین پگڈنڈیوں پر اڑتے ہوئے

www.iqbalkalmati.blogspot.com

گاؤں کو بھاگ گئے اور راجو پلٹ کر اپنے کھیت کو جانے لگی۔

برہان جو اس عرصے میں زندگی کی کئی کٹھن منزلیں طے کر چکا تھا' آگے بڑھا اور راجو کے قریب جا کر بولا۔ "راجو! دیکھو۔ یہ ٹھیک نہیں' تم شاید مجھے اب وہ دیہاتی برہان نہیں سمجھتیں جو تمہارے ساتھ سنہری ٹیلوں پر کھیلا اور لچکتے ہوئے نیموں میں تمہارے گدگدیاں کرتا رہا۔ وہ جس نے تمہاری چاندی کی ہنسلی ٹیڑھی کر دی تھی اور تم نے غصے میں اس کا کاندھا کاٹ لیا تھا۔ آج بھی تمہارے دانتوں کے گلابی گلابی نشان ہوں گے میرے کاندھے پر ——— تم شاید مجھے وہ پرانا برہان نہیں سمجھتیں ورنہ تمہارا برتاؤ اتنا تلخ نہ ہوتا۔ راجو! سنتی ہو؟"

اس عرصے میں دونوں اونچی مینڈ اتر کر کھیت میں آ گئے تھے۔ راجو نے گاؤں کی طرف دیکھا اور پھر برہان کے مقابل آ کر بولی۔ "تم وہی برہان سہی۔ مگر دیکھو ——— اب ہم بچے نہیں!" ——— اس کے رخساروں پر آگ سی جلنے لگی اور کنپٹیوں کے قریب نیلی نیلی سی باریک رگیں پھڑکنے لگیں۔

برہان چپ چاپ پلٹ کر پگڈنڈی پر آ گیا۔ سوٹ کیس جسے وہ وہیں چھوڑ آیا تھا' ہاتھ میں لٹکا کر گاؤں کی طرف چلنے لگا۔ اس کے دماغ کی سلوٹوں میں جلن سی پیدا ہو گئی۔ اس کی رگوں میں جھرجھری سی دوڑ رہی تھی جیسے اس نے بے جانے بوجھے سانپ چھو لیا ہو! بچپن کے واقعات سامنے بھورے آسمان پر ابھر کر بہت دیر تک تنے رہے۔ وہ سوٹ کیس کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بدلتا رہا اور سوچتا رہا۔ راجو کے مزاج میں اتنا ہولناک انقلاب کیسے آیا؟ اس کھلنڈری لڑکی نے یہ زہریلی بے نیازیاں کہاں سے سیکھیں؟ اسے کس نے بتایا کہ اب وہ بچہ نہیں؟ اتنی معصوم لڑکی کو شعور اور ادراک کے سبق کس نے پڑھائے؟ اور جب اسے خیال آیا کہ وہ خود بہت بدل چکا ہے' ظاہری ہیئت کی تو بات ہی الگ ہے' اس کے دل کی ہر دھمک میں کئی پریشان کن بے یقینیاں

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

پرفشاں ہیں' اس کے کانوں کے پاس اکثر ایک آندھی سی چلتی رہتی ہے اور اس پر ہروقت نیم خوابی کا سا عالم رہتا ہے تو وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ گاؤں والوں میں سے کئی تو اسے پہچان گئے لیکن اکثر اسے مدرسے کا نیا منشی سمجھ کر آگے نکل گئے اور جب گلی کے نکڑ پر انہیں معلوم ہوا کہ منشی صدر الدین مرحوم کا اکلوتا بیٹا برہان امرت سر سے نوکری چھوڑ کر گھر واپس آیا ہے تو وہ پلٹے اور اسے گلے لگا کر گھر تک پہنچا آئے۔

دن بھر ملنے والوں اور ملنے والیوں کا تانتا بندھا رہا اور جب رات گئے یہ شور و غوغا کم ہوا تو برہان نے ماں سے بہت بھولی بھالی باتیں کیں۔

"امی! یہ بیری کا درخت وہی پرانا ہی ہے کیا؟"

"ہاں ہاں! وہی تو ہے!"

"ٹھیک ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ پورب کو جھکا ہوا بھدا تنا۔ یہ چھت کو چھوتی ہوئی سیدھی ٹہنیاں۔ وہ آخری پھننگ کی حیران کر دینے والی بلندی ——— سب کچھ وہی تو ہے۔ پر امی! اتنا عرصہ بیت چکا ہے۔ اس درخت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟"

اس کی ماں تعجب اور محبت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ "کیوں نہیں آئی۔ کئی بار پرانے پتے جھڑے اور ان کی جگہ نئے پتوں نے لی۔ بور آیا۔ بیر پڑے اور پھر پتوں سمیت جھڑ گئے۔ ادھر اتر والا تنا خدا بخشے تمہارے ابا نے کاٹ کر مرغی خانہ بنایا تھا۔ لیکن اب وہاں بھی ننھی ننھی ٹہنیاں اگ آئی ہیں۔ دیکھتے نہیں منڈیر پر جھکی پڑ رہی ہیں۔"

برہان پھر بولا۔ "امی! یہ عجیب بات ہے کہ چار پانچ سال پہلے کی وہ پگڈنڈیاں جن پر میں اپنے ہمجولیوں کے ساتھ کھیلتا پھرا وہ ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ وہی موڑ۔ وہی صفائی۔ سب کچھ وہی۔ یہ پگڈنڈیاں تک نہ بدلیں جب کہ کھیتوں میں جانے کتنی بار ہل چل چکے ہوں گے!"

"ہل تو چل چکے ہیں بیٹا!" ماں بولی۔ "مگر آخر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں نا۔ پگڈنڈیاں پھر ابھر آتی ہیں اور پھر تم نے کبھی سیدھی پگڈنڈیاں بھی دیکھی ہیں؟ دنیا کی سب پگڈنڈیاں ایک جیسی ہیں' مڑتی ہوئی اور صاف اور ——— لیکن برہان بیٹا! تم بچوں کی سی باتیں کیوں کرنے لگے؟ تم تو اب اللہ رکھے پڑھے لکھے' اتنے بڑے اور سیانے ہو چکے ہو!"

برہان مسکرا کر بولا۔ "یونہی بچپن یاد آ رہا ہے ماں! مدت کے بعد گاؤں آیا ہوں نا!"

اور اب برہان کو راجو کے بدل جانے پر تعجب نہ رہا۔ وہ سوچتا رہا کہ گو ہر چیز پر کئی انقلاب آئے ہیں اور ہر شے نے اس عرصے میں کئی چولے بدلے ہیں لیکن ہر چیز وہی تو ہے۔ بیری نے نئی شاخیں چھوڑیں پر بیری تو وہیں موجود ہے۔ پگڈنڈیاں مٹتی رہیں لیکن پھر ابھر کر ویسی نظر آتی ہیں۔ راجو بھی بدل چکی ہے لیکن راجو تو ہے ہی! ——— وہی معصوم چڑیا ——— سنہرے نیلوں کی البیلی ہرنی!!

اس کے من کی ڈالی ہچکولے سے کھانے لگی۔ اس نے ہزار بار چاہا کہ اس ڈالی سے یہ پھدکتی ہوئی اور بے چین چڑیا اڑ جائے لیکن ہوا میں بالشت بھر ابھر کر وہ پھر اسی ڈال پر اپنے گلابی پنجے جما دیتی اور ڈالی ڈولنے لگتی اور پھر یہ ڈالی مہینوں یونہی ڈولتی ہی رہی۔ چوپال کی محفلوں میں شریک ہونے سے وہ دیہات کی معاشی سیاسیات سمجھ چکا تھا۔ اپنے ہم عمروں کی باتیں سن کر' ان کے راز پا کر' ان کی کوششوں کے عجیب و غریب ذریعے معلوم کر کے اس نے محسوس کیا کہ وہ اب تک کورا ہی تھا۔ آخر گلیوں میں گھنٹوں دھوپ میں جلتے رہنا اور پھر راجو کو قریب سے گزرتے دیکھ کر گھبرا جانا کہاں کا مردانہ پن ہے۔ نہ بات کرنے کی جرات نہ بلانے کی ہمت! کنوئیں پر اگر ایک بار راجو نے اس سے گاگر اٹھوائی تو کون سا میدان مار لیا اس نے۔ آخر وہ ہر روز گاؤں کی کتنی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

لڑکیوں کو گاگریں اٹھواتا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں!

اور پھر ——— ایک روز وہ شام کو ایک اندھیری اور گہری پگڈنڈی کے قریب ایک جھاڑی میں دبک کر بیٹھ گیا۔ راجو جب اپنے کھیتوں سے پلٹ کر آئی تو اس پگڈنڈی پر سے گزری۔ اس کے سر پر گھاس کا ایک انبار تھا اور ہونٹوں پر دھیما دھیما گیت۔

ڈھولا چھپ لک ہندا ایں میں وے کنوں

(میرے محبوب۔ تم مجھ سے چھپے چھپے رہتے ہو۔)

خاموش شام کے بڑھتے ہوئے دھندلکے میں اس گیت نے مجسم صورت اختیار کر لی۔ گول مول لکیروں کی ایک گھومتی ہوئی گیند سی فضا میں چکراتی اوپر لپکی اور جیسے آسمان سے ٹکرا کر تارے بن کر بکھر گئی۔

برہان جھاڑی سے کھسک کر پگڈنڈی پر آگیا اور جب راجو گنگناتی ہوئی اس کے بالکل قریب آگئی تو وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ راجو گھاس کا انبار پھینکتی پلٹی اور قریب ہی کے ایک بلند ٹیلے پر تیزی سے چڑھنے لگی۔ برہان ہولے سے بولا۔ "تو تو اب بھی بالکل چڑیا کی طرح چمکتی ہے راجو!"

اور راجو ٹھٹک کر کھڑی ہوگئی۔ کافی دیر تک وہ وہیں کھڑی رہی جیسے دھندلے آسمان پر ایک اندھیری سی پرچھائیں چپکا دی گئی ہو۔ اس کا آنچل کبھی کبھی ابھر کر دھیرے سے پھڑپھڑاتا تو اسے محسوس ہوتا کہ اس بے جان ویرانے میں زندگی کی رمق باقی ہے ورنہ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔

"میں جانتی ہوں تو برہان ہے۔" راجو ٹیلے سے اترنے لگی۔ "میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تو نے کئی بار چوپال کے بھرے مجمعوں میں میرا نام لے لے کر آہیں بھری ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ تو خوابوں میں بھی میرا نام بڑبڑاتا ہے۔ لیکن دیکھ برہان!" ——— اور اب وہ اس کے بالکل قریب آگئی ——— "اب ہم بچے نہیں!"

www.iqbalkalmati.blogspot.com

"ٹھیک ہے۔" برہان بولا۔ "لیکن وہ دو بچے جو ان ٹیلوں پر برسوں اکٹھا کھیلتے پھرتے رہے ہوں' اگر کچھ عمر گزرنے کے بعد' دن کو نہ سہی ——— رات کو سہی ——— ان ٹیلوں پر دو لمحے مل بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیں تو حرج ہی کیا ہے؟"

"ٹھیک ہے۔" راجو بولی۔ "لیکن میرے باپ کا کلہاڑا بہت سخت ہے۔ وہ جس شدت سے میرے سر پر پڑے گا اسی تیزی سے تمہاری گردن پر بھی لپکے گا۔ میں جانتی ہوں تم بہت اچھے ہو۔ تمہارا دل صاف ہے' تم مجھے بہت پیارے لگتے ہو اور میں بچپن کی باتیں ابھی تک نہیں بھولی' لیکن یہ چوری چھپے کی ملاقاتیں دیہات میں نہیں پنپ سکتیں۔ یہ امرت سر نہیں۔"

برہان اچھل پڑا۔ "قسم لے لو راجو! اگر میں نے امرت سر میں کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو ——— تم مجھ پر شک کرتی ہو؟"

"نہیں نہیں۔" راجو بولی۔ "ویسے میں کہہ رہی تھی کہ زمانہ بڑا نازک ہے۔"

برہان ہمت کر کے بولا۔ "لیکن کیا میں تمہارے باپ کو کہہ کر ———"

لیکن راجو نے اس کی بات کاٹ لی۔ "تم کہیں نوکر بھی تو نہیں۔ میرا باپ کھاتا پیتا گھر ڈھونڈے گا میرے لیے۔ وہ مجھے تمہارے پلے باندھنے سے رہا۔"

اور برہان بچوں کے سے بھولپن سے بولا۔ "لیکن میں زمینوں پر باغ لگانے والا ہوں۔ اور بہت سے کنوئیں کھدوانے والا ہوں۔"

راجو جھک کر گھاس کے انبار سے ایک تنکا نکال کر بولی۔ "لگانے والوں اور کھدوانے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ کل کی باتیں ہیں۔"

"کوشش کروں؟" برہان نے انتہائی بے بسی سے پوچھا۔

"ہاں۔ کر دیکھو ——— ذرا یہ گٹھا میرے سر پر رکھ دو۔"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

برہان نے سعادت مند بچے کی طرح حکم کی تعمیل کی اور پھر رکتے رکتے بولا۔ "اچھا تو پھر ——"

"ہاں ہاں۔ کوشش کر دیکھو۔"

اندھیری رات کی وسعتیں سمٹ کر ایک غار میں تبدیل ہو گئیں اور برہان دیر تک اس کی گہرائیوں میں ٹامک ٹوئیے مارتا پھرا۔ جب وہ گھر کو پلٹا تو اس کی ماں اندر صحن میں پڑوسن سے باتیں کر رہی تھی۔

"بات ٹھیک ہے' پر بہن! وہ نوکر جو نہیں۔ کہیں نوکر ہوتا تو سارا گاؤں رشتے کے لیے میرے گھر پر ٹوٹ پڑتا۔ یہ امرتسر تھا تو کئی آئے پر میں نے سیدھے منہ سے بات نہ کی —— اب کوئی پوچھتا ہی نہیں۔"

پڑوسن کی آواز آئی۔ "پر تو نے اپنے لاڈلے کو نوکری ڈھونڈنے کے لیے کبھی کہا بھی ہے؟"

"نہیں بہن! کبھی نہیں کہا اور نہ کبھی کہوں گی۔ سمجھے گا ماں تھک گئی ہے اس سے۔ خود سیانا ہے۔ کبھی محسوس کرے گا' اور پھر ابھی بیس سال تو اس کی عمر ہے اور آج کل شادیاں تیس تیس سال کے بعد ہو رہی ہیں۔"

برہان وہیں سے پلٹا۔ اندھیری گلیوں میں سائے کی طرح رینگتا گاؤں سے باہر آیا اور ایک سمت منہ اٹھا کر چل دیا اور سوچتا گیا۔ کبھی تو ختم ہو گی یہ راہ۔ کبھی تو اس راہ میں کوئی شہر حائل ہو گا اور وہ پھر کسی میونسپل کمیٹی کے دفتر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور پھر جب وہ نوکر ہو جائے گا جب وہ نوکر ہو جائے گا —— جب وہ ——!

اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ خیالات کی دھکم پیل سے اس کا دماغ چکرانے لگا اور دن چڑھے جب وہ تھک ہار کر ایک نیم کے سائے میں بیٹھ گیا تو اچانک نیم کی ایک ڈالی چڑیا کے اڑ جانے سے ڈول اٹھی۔ وہ دھندلی سوچوں کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا اور جب وہ اپنے نوکر ہو جانے کے بعد

کے حالات پر غور کرنے لگا تو وہ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پریشانی میں اس نے اپنے سینے کو زور سے ملا اور اس نے محسوس کیا کہ گو اس کے من کی ڈالی اب ڈولتے ڈولتے تھم کر اپنے پتے تھرتھرا رہی ہے لیکن اب اس پر وہ گلابی پنجوں والی چہکتی ہوئی بے چین چڑیا موجود نہیں بلکہ اس پر میونسپل کمیٹی کا دفتر سوار ہے!

* * *

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

نیم وا دریچے

اسے دیکھنے والے کہتے۔ "پر یہ وکیل کیسے بنا؟ وکیلوں والی تو کوئی بات نہیں اس میں ——— اس کی ہر بات رس بھرا شعر ہے' اس کی ہر حرکت میں غنودگی ہے' اس کی آنکھوں سے ہمیشہ خواب جھانکتے رہتے ہیں' اتنے ہلکے پھلکے مزاج کا نوجوان تعزیرات ہند کے خار زار میں کیسے الجھا؟ بھئی یہ کوئی راز کی بات ہے!"

کہنے والے سچ کہتے تھے۔ وکالت کا پیشہ اختیار کرنے میں اس کا ایک راز پوشیدہ تھا۔ جب وہ اپنے دفتر کی کرسی پر بیٹھ کر اخبار کی آڑ سے سامنے سڑک پر پریشان حال دہقانوں کو اپنی طرف آتا دیکھتا تو اس کی بصارت اس کی آنکھوں میں ریت کے موٹے موٹے ذرے بن کر چبھنے لگتی اور اس کے ہونٹوں پر باریک سی شکنیں ابھر آتیں جو کچھ دیر کے بعد بھوری سی پپڑیاں بن جاتیں۔

اس کا منشی کان پر پنسل رکھے' عینک کو ناک کے مرجھائے ہوئے بانسے پر اٹکائے اندر آتا' اور کہتا۔ "قتل کا کیس ہے محمود صاحب!" ——— دفعہ 302 کے موٹے موٹے حروف سامنے دیوار پر ابھر آتے لیکن جب اسے معلوم

ہوتا کہ اس قتل میں زن کی بجائے زر اور زمین کا ہاتھ ہے' تو وہ اخبار کو مروڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا اور نیلی روشنائی کے قلم کو لال روشنائی میں ڈبو کر فائلوں کی جلدوں پر بے ڈھنگے دستخط کرنے لگتا۔

منشی عینک اٹھا کر ناک کے بانسے کو رگڑتا اور پنسل کو ایک کان سے دوسرے کان پر جماتے ہوئے کہتا۔ "محمود صاحب! اتنے اچھے کیس لے آتا ہوں میں' مگر آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ پانسو روپیہ فیس بھی چکالی ہے۔ دن دہاڑے کا قتل ہے صاحب! سارا گاؤں دیکھنے والا۔ ملزم موقع پر گرفتار۔ کلہاڑا ہاتھ میں۔ کپڑے خون میں تر۔ اور پھر پبلی پیشی میں مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی ہو گیا کم بخت۔ اس کا باپ تو اپنی ساری پونجی بیچ کر بھی مقدمہ لڑے گا!"

لیکن محمود کے لیے روپوؤں کا لالچ فردی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ اسے آرزو تھی تو محض زندگی کے ایک خواب کی تعبیر کی ایک دلاویز خواب جو گہرے مطالعہ کا نتیجہ تھا اور جس نے اس کے دنوں پر سائے اور راتوں پر کرنوں کے تار سے پھیلا رکھے تھے!

کتابوں میں اس نے پڑھا تھا کہ دیہاتی لڑکیوں کے حسن میں ابھی تک یونانی تصور کی وہ رمق باقی تھی' جس نے دیوتاؤں کے دماغ خبط کر دیئے اور زندگی کے کڑے سے کڑے قانون محض اس حسن کی ہم نشینی کے لیے توڑ پھوڑ ڈالے گئے۔ وہ شہروں سے بیزار تھا۔ یہاں کی سڑکیں تک بھی تو مصنوعی تھیں۔ کنکریاں بچھاؤ۔ انجن چلاؤ۔ تارکول کا تعفن پھیلاؤ اور مقدس دھرتی کے جسم پر بدنما خراشیں ڈال دو۔ یہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے دبیز پردوں کے پیچھے ریڈیو کی مدھم آوازیں۔ گھبرائے ہوئے قہقہے اور پراسرار کھسر پھسر۔ سائنس کے ایجاد کردہ آلات سے سلجھی ہوئی پلکیں جو دیر تک جھکے رہنے کے جادو سے ناآشنا تھیں۔ یہ گرجتے ہوئے بازار اور یہ بھٹکتی ہوئی دکانیں! ——— یہاں زندگی دیوانی ہو رہی تھی!

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

اور وہاں ——— دیہات میں ——— اس کے محبوب مصنفین کے قول کے مطابق ——— زندگی ازلی اور ابدی شگفتگی کی جھلکیاں لئے ہوئے تھی۔ وہاں کے لالہ زاروں کے مالی کا کام خود فطرت نے سنبھال رکھا تھا۔ وہاں حسن سادہ اور معصوم تھا۔ وہاں کی معاشرت میں ریشم کا سا لوچ اور نرمی تھی۔ وہاں کی لڑکیاں بے لوث مسکراہٹیں بکھیرنے میں بخل سے کام نہیں لیتی تھیں۔ ان کی جھکی ہوئی پلکوں کی اوٹ میں بے داغ گیتوں کے ہجوم تھے کیونکہ اونچی چوٹیوں پر صنوبروں کے تلے اور نیچے میدانوں میں کیکروں کی چھدری چھاؤں میں انہوں نے چرخے کاتے اور دودھ بلوئے تھے۔ فطرت کی ہم نشینی نے انہیں سادہ اور پاک بنا دیا تھا۔

طالب علمی کے زمانے سے وہ دیہاتوں کی ان پراسرار رنگینیوں سے فیض یاب ہونا چاہتا تھا' جن کے تذکرے کرتے ہوئے بڑے بڑے اہل قلم فصاحت کے دریا بہا دیتے تھے۔ وکالت کا پیشہ اس نے اسی لیے اختیار کیا تھا لیکن اس کے ہاں دیہاتی آئے مگر دیہاتنیں نہ آئیں۔ ایک بار ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی اس کے دفتر کے قریب سے گزری۔ وہ اندھی تھی اور اس کا ہاتھ ایک نوخیز لڑکی نے تھام رکھا تھا جو کسی کی طرف دیکھتے ہوئے جھجکتی تھی اور جھجکتے ہوئے ہر کسی کو دیکھ لیتی تھی۔ اس کے جی میں آئی کہ بڑھ کر لڑکی سے کہے "چھوکری! تو دکھیا معلوم ہوتی ہے مجھے۔ اگر تجھ پر ظلم ہوا ہے اور تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتی ہے تو ادھر آ۔ میں تیرا کام دام لیے بغیر کر دوں گا۔ تیرا فرض بس اتنا ہوگا کہ تو سارا واقعہ مجھے سنا دے ——— اور پھر مسکرا دے ——— اور پھر اپنے میلے دوپٹے سے الجھے ہوئے بال چھپاتے ہوئے مجھے صرف اتنا کہہ دے۔ "وکیل میاں تو بڑا وہ ہے!"

وہ دروازے تک آیا بھی' لیکن اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں لٹک گیا ہے وہ دونوں بھکارنیں تھیں اور شام کے کھانے کے لیے ایک

آوارہ نوجوان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھیں۔ "بابو۔ ایک پیسہ دے۔ بانکے بابو۔ اللہ تو سرا باندھے!"

"اور تو گھونگھٹ نکالے۔" آوارہ نوجوان پان کی پیک کونچلے جبڑے میں سنبھالتے ہوئے بولا۔ "تو مہندی رچائے اور بڑھیا ڈھولک بجائے اس سنجوگ پر!"

"اللہ مارا۔" لڑکی بولی۔

"خدائی خوار۔" بڑھیا بڑبڑائی۔

اور آوارہ نوجوان بیڑی سلگاتا محمود کے سامنے سے ایک گیت گاتا گزرا۔

چھوڑو جی بتیاں بھچھوری کرت ہو
پگلے ہو' کیوں جورا جوری کرت ہو
ٹھٹھے میں منوا کی چوری کرت ہو
مان بھی جاؤ جی' ہٹ نہ دکھاؤ جی
من کپلیت ہے' دھیر بندھاؤ جی
آؤ جی' آؤ جی

اور اس نے پھیپھڑوں کے پورے پھیلاؤ سے کام لے کر ایک بھونڈا کھڑا کھڑاتا نعرہ لگایا۔ "آؤ جی"

قریب کے ایک بالا خانے کی کھڑکی پھٹ سے کھلی اور کھٹ سے بند ہوگئی اور ایک باریک سا قہقہہ سنگین دیواروں سے سر پٹختا' روشن دانوں سے کھسک کر محمود کے کانوں کے قریب غضب ناک بھڑ کی طرح بھنبھنانے لگا۔

اسی روز اس نے قریب کے ایک پہاڑی گاؤں میں جانے کا تہیہ کر لیا۔ منشی نے جب یہ سنا تو اس کی عینک ناک کے بانسے سے لٹک کر بھوری مونچھوں پر اٹک گئی۔ آنکھوں پر پپوٹے جھک آئے۔ بھنویں بل کھا گئیں۔ قلم

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

کے الٹے سرے کو دوات میں ڈبو کر بولا۔ "اور میں محمود صاحب!"

"تمہیں ہر مہینے باقاعدہ تنخواہ ملتی رہے گی۔" محمود بولا۔

اور منشی کی آنکھیں کھل گئیں' بھنویں تن گئیں اور عینک اچک کر ناک کے بانسے پر ہو بیٹھی۔ ہونٹ لرزنے لگے جیسے کہہ رہا ہو۔ "کسی نیک کام کا پھل ہے یہ۔ ورنہ بغیر کام دام کون دے گا اس گئے گزرے زمانے میں۔ اور محمود صاحب! تم کہیں نکل جاؤ' میرے بلا سے۔ پر یہاں نقد سودا چلتا ہے۔ تم تنخواہ نہیں دو گے تو پنڈت مکھی رام پلیڈر تو کہیں نہیں گئے۔ جو ایک برس سے تجربہ کار منشی کی تلاش میں ہیں!"

سیدھا سادا شہری لباس پہنے' ہاتھ میں چمڑے کا ایک بیگ لٹکائے وہ سٹیشن پر آیا اور کسی غیر معروف مقام کا ٹکٹ خرید کر تھرڈ کلاس کے ایک ڈبے میں بیٹھ گیا۔

اس ڈبے کے مسافر ہندوستان کے تمام صوبوں کی نمائندگی کر رہے تھے مگر اکثریت ان دیہاتیوں کی تھی جو محمود کے خوابوں کے بھولے بھالے کردار تھے اور جن میں ابھی تک ازل میں بخشی ہوئی زندگی کی دھندلی سی جھلکیاں پائی جاتی تھیں۔ مسافروں سے گھل مل کر بیٹھنے کی تمہید خوش مذاقی ہے۔ یہ مقولہ اس نے کسی کتاب میں پڑھا تھا اس لیے وہ آس پاس دیکھنے لگا۔ ایک بنگالی کی عینک کے سنہرے فریم پر ایک مکھی بار بار بیٹھتی تھی اور وہ جھلا کر بار بار اپنا ہاتھ جھٹکتا تھا۔ محمود آگے جھک کر بولا۔ "مکھی آپ کو تنگ کر رہی ہے؟

"ہُم۔" بنگالی نے امرت بازار پتریکا میں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔

"مٹھاس پر بیٹھتی ہے مکھی۔" محمود بولا۔

"ہُم" بنگالی نے اخبار کا زاویہ اور بلند کر لیا۔

"رس گلے کھائے ہوں گے آپ نے؟" محمود خوش مذاقی پر تل گیا

تھا۔

"ہُم۔ہیں؟" بنگالی بھڑک اٹھا۔ "رس گلے؟ اور کا رس گلا اُور کے رس گلے کا بچہ ہے۔ اُور کا رس گلا یہ یہ ہوتا ہے۔" ——— اور اس نے پہلو سے سنترہ اٹھا کر انگلیوں میں گھمایا۔

"اور اور کا رس گلا؟" محمود نے پوچھا۔

"اُور کا؟" بنگالی سوچ میں پڑ گیا۔ "اُور کا رس گلا ———" اُور کا بس آپ کی ناک مافق ہوتا ہے!"

آس پاس بیٹھے ہوئے مسافر گو نجیلے قہقہے لگانے لگے۔ سب کے سب اس کی اچھی بھلی ناک کو گھورنے لگے' جس میں شرارت بھری نظریں برمے کی طرح گھسی جا رہی تھیں۔

اس طرف سے ایک دیہاتی طنزاً" کھنکارا۔ "اہم" اور پھر محمود کے قریب آ کر بولا "اس بچھی میں کیا ہے میاں؟"

"کیوں؟" محمود سٹ پٹا گیا۔

دہقان اپنے ساتھیوں کو گوشۂ چشم سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ "یہ بچھی کھوبو نا میاں۔ دوا دارو کو یوں بغل میں دبائے پھرنا بھلے آدمیوں کی ریت نہیں۔ ایسی بچھی حکیم ہی تو رکھتے ہیں اپنے پاس!"

ایک سرحدی پٹھان آخری انگلی میں سگریٹ اٹکا کر اور ایک ہولناک کش لگا کر بولا۔ "یا نائی"

قریب ہی ایک پوربیا گڑوی سے چلّو پر پانی ڈالتے ہوئے بولا "یا بنجارے!"

پرلی سیٹ پر دبکی دیہاتنیں آنچلوں میں ناکیں چھپا کر گنگنے لگیں اور محمود گھبرا کر بولا۔ "بھئی نہ میں حکیم ہوں' نہ نائی ہوں' نہ بنجارا۔ سیر پر نکلا ہوں گھر سے۔ اس بیگ میں چند کپڑے اور کیمرہ ہے۔ میں وکیل ہوں۔"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

"وکیل ہیں آپ؟" عقب سے کسی نے محمود کی گردن کو چھوا۔ محمود نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لالہ جی آنکھیں پھاڑے اسے گھور رہے تھے۔ "معاف کرنا جی۔ آپ وکیل ہیں نا؟ ایک بات پوچھنی ہے آپ سے' اگر ایک شخص ایک دوسرے شخص سے قرضہ لے اور رسید لکھ کر نہ دے اور پھر قرضہ چکانے سے انکار کر دے تو قرضہ دینے والا کیا کرے۔"

"چلّو بھر پانی میں ڈوب مرے!" محمود بیگ سنبھالتے ہوئے بولا۔ اٹھ کر ایک کونے میں جا بیٹھا اور سوچنے لگا۔ یہ حقے گڑگڑاتے' لٹھیں کھڑکھڑاتے' قہقہے لگاتے پنجابی دہقان شاید ان مصنفوں نے نہیں دیکھے جنہیں ان کے دلوں کے بلور پر کوئی دھبہ نظر نہ آیا۔ مگر ہو سکتا ہے یہ دیہاتی نہ ہوں قصباتی ہوں! اور پھر قصبوں میں ریلیں نہ سہی وہ لاریاں تو پہنچ ہی چکی ہیں' جن کے عقب میں زندگی کی پاکیزگی چیختی' چلاتی گھسٹتی رہ جاتی ہے!

جوں توں کر کے وہ وقت کٹا۔ سٹیشن پہاڑ کے دامن میں تھا۔ پلیٹ فارم سے باہر آیا۔ چند پگڈنڈیاں ادھر ادھر لپکتی' لچکتی پہاڑوں کی بھوری وسعتوں میں گھل مل گئیں تھیں۔ گاڑی دھوئیں کی پھیکی پھیکی لکیر چھوڑتی افق پر سمٹی جا رہی تھی اور سٹیشن کے بنگلے کے سرے پر لکڑی کے تختے کا سہارا لئے بابو ٹکٹ گن رہا تھا۔ کسی اچھے سے گاؤں کا پتہ پوچھنے کے لیے محمود' بابو کی طرف بڑھا۔ بیگ کی چرر چرر سے بابو چونکا تو محمود بولا۔ "بابو جی! معاف کیجئے گا آپ مصروف تھے' مجھے کسی ایک ایسے گاؤں کی راہ بتایئے جو نزدیک بھی ہو' اچھی جگہ پر بھی ہو' گاؤں کی ساری خصوصیات بھی موجود ہوں۔ میں اجنبی ہوں۔ سیر پر نکلا ہوں گھر سے۔ اور پھر مجھے کسی خاص گاؤں میں تو جانا نہیں۔ بس کوئی اچھا سا پیارا سا گاؤں ہو!"

بابو گھوم کر محمود کے قریب آگیا۔ بولا۔ "آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی!"

محمود مسکرایا۔ "بات یہ ہے بابو جی! کہ میں سیر پر نکلا ہوں۔ مجھے کسی ایسے گاؤں کا پتہ بتایئے جس میں پنگھٹ ہوں' نیموں کے چھتنارے ہوں' لہلہاتے کھیت ہوں' بھدی منڈیریں اور آڑی ترچھی گلیاں ہوں' جہاں کی چوپالیں آدھی آدھی رات تک قہقہوں سے گونجتی رہیں' جہاں کی مسجدوں میں سیدھے سادے نمازی اور جہاں کے مندروں میں بھولے بھالے پجاری ہوں' جہاں کی لڑکیاں کھلے آنگنوں میں رنگین چرخے کاتیں اور نیم اندھیرے کنجوں میں پینگیں بڑھاتے ہوئے رسیلے گیت گائیں۔" یہاں محمود بے خود سا ہو گیا۔

بابو محمود کی بات کاٹ کر بولا۔ "معاف کیجئے گا۔ آپ بات کر رہے تھے۔ دور دور تک گاؤں بکھرے ہوئے ہیں ان پہاڑوں میں۔ نزدیک کے گاؤں بتائے دیتا ہوں۔ یہ پگڈنڈی سیدھی کنڈ کو جاتی ہے۔ اس کمان سی پگڈنڈی پر چوہہ ہے۔ اس سامنے والی پگڈنڈی پر آپ کو کٹھوا ہی ملے گی۔ وہ درختوں کے درمیان پتلی سی راہ ——— وہ جس کے آس پاس گائیں چر رہی ہیں ——— یہ مندی پور جاتی ہے اور ———"

محمود جھٹ بول اٹھا۔ "مندی پور؟ معاف کیجئے گا۔ آپ بات کر رہے تھے۔ مندی پور ٹھیک رہے گا۔" اور وہ مہندی کی خوشبو میں لپٹے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ "پلٹنے پر ملاقات ہوگی آپ سے!"

بابو مسکرایا جیسے کہہ رہا ہو۔ "تو کیا پائے گا مندی پور میں۔ نہ وہاں لارنس باغ' نہ ٹھنڈی سڑک' نہ شملہ پہاڑی۔ اور تیری چال ڈھال بتا رہی ہے کہ تو پتھریلی گلیوں کے کنارے کچے گھروندوں کا سہارا لے کر بیٹھنے والے دیہاتیوں سے ——— خیر!" وہ ٹکٹ گننے لگا۔

مندی پور ننھا سا گاؤں تھا۔ گارے میں جکڑے ہوئے گول مول پتھروں کے ذوزنقہ کی شکل کے گھروندے' کنکروں سے پٹی ہوئی گلیاں' میلے کھدر کے لباس پہنے ہوئے کڑیل گبرو' اور سر پر گاگر یا گاگر بنائے ہوئے لمبے

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

لمبے ڈگ بھرتی پنہاریاں۔ جن کی گوری کلائیوں کو جست کی چوڑیوں نے میلا کر دیا تھا۔ گاؤں سے پورب کی طرف ایک گھاٹی پر ننھا سا جھرنا' جس کا پانی ٹخنوں ٹخنوں تھا۔ گاہے ماہے کہیں الغوزے بجتے' کبھی کبھی کسی دور افتادہ چوٹی سے کسی دوہے کی بھنک پڑ جاتی' ورنہ ہر طرف سکوت طاری تھا جس کو مچھڑوں کے ڈکرانے اور بوڑھوں کی کھانسی کی ٹھوں ٹھوں نے زیادہ شدید کر دیا تھا۔

محمود گاؤں میں داخل ہوا تو کھویا کھویا۔ ایک گبرو سے چوپال کا پتہ پوچھا تو جواب ملا "چوپال بند ہے آج کل۔ نمبردار جی کی سالی مر گئی ہے اور کوئی دوسری چوپال یہاں ملنے کی نہیں۔ بالشت بھر کا تو گاؤں ہے۔ تو مسافر لگتا ہے مجھے۔ سامنے مسجد میں پڑ رہ۔"

"مگر اس کے مینار؟" محمود کے دماغ پر لاہور کی شاہی مسجد سوار تھی!

"مینار کے بغیر بھی یہ مسجد ہی ہے۔ مسجد کی پہچان مینار نہیں' محراب ہے۔" گبرو مسکرایا۔

محمود مسجد میں آیا۔ صحن کے باہر ایک کھاٹ پر بیٹھ کر بیگ سے کپڑے نکالے۔ وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ بڑا لطف آیا اسے نماز میں' کیونکہ قریب ہی ڈھول اور شہنائیاں بج رہی تھیں۔ یہ بیاہ کی نشانیاں ہیں اور پنجابی دیہات کے بیاہ اپنی خصوصیات کے لیے منفرد ہیں۔ ایک بار پہلو کی گلی میں چند پنہاریاں جاتی نظر آئیں۔ موٹی موٹی ضخیم کتابوں کی تفسیریں اب اس کے سامنے گھومتی پھر رہی تھیں' لیکن مسجد کا احترام لازم تھا۔ کنکھیوں سے اس نے کچھ دیکھنے کی کوشش کی' مگر پنہاریاں تیز گام ہوتی ہیں۔ گاؤں کی گلیاں یک لخت ایک طرف مڑ جاتی ہیں اور پھر کنکھیوں سے دیکھنا بھی تو دیکھنے کا منہ چڑاتا ہے۔

دعا سے فارغ ہوا تو امام صاحب کے قریب کھسک آیا اور بولا۔ "اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟"

"کہو کہو۔" امام صاحب تسبیح کے دانوں کی گنتی جاری رکھتے ہوئے

www.iqbalkalmati.blogspot.com

بولے۔ "شہری معلوم ہوتے ہو؟"

"جی شہری ہوں۔ دیہات کی معاشرت کے متعلق ایک کتاب لکھنے والا ہوں۔ مہندی پور بڑا پیارا گاؤں ہے' یہاں کے لوگوں کی سادگی اور شرافت کے چرچے سن کر مناسب سمجھا کہ اپنا دلچسپ سفر یہیں سے شروع کروں۔ آپ یہیں کے رہنے والے ہیں نا؟"

امام صاحب مسکرا کر بولے۔ "نہیں۔ میں ہری پور ہزارہ کا پٹھان ہوں' پندرہ برس سے رہتا ہوں اس گاؤں میں۔ خدمت کرتا ہوں بھولے دہقانوں کی۔"

محمود مہندی پور اور ہری پور کی ٹکر سے جھینپ سا گیا۔ بولا۔ "پندرہ برس سے؟ تو یہ کہیے نا کہ آپ کی جائے پیدائش ہری پور ہے' لیکن آپ رہنے والے مہندی پور کے ہیں۔ تو حضرت! میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا میں چند روز یہاں حجرے میں رہ سکتا ہوں؟"

امام صاحب کی تسبیح کی روانی رک گئی۔ "لاحول ولا قوۃ - سیاح لوگ مسجد کے حجروں میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ پردیسی طلبا کے لیے بنا رکھے ہیں یہ گھروندے۔"

"تو میں آپ سے "کریما" کے سبق لے لیا کروں گا۔" محمود جھٹ بول اٹھا۔

اور پھر جب امام صاحب کو معلوم ہوا کہ محمود کھاتا پیتا نوجوان ہے تو گھر سے اس کے لیے توشک اور تکیہ لے آئے' اور نمازیوں میں مشہور کر دیا کہ یہ گبرو بڑا اللہ والا ہے۔ لکھ پتی ہے پر علم دین حاصل کرنے کے لیے سوکھے ٹکڑے قبول کر لیے تمہارے۔ یقیناً اسلام پھر کروٹ بدل رہا ہے۔

نمازی محمود کی ادھ کتری مونچھوں کے آخری مصنوعی خم کو دیکھ کر پہلو بدلنے لگے اور پھر جیسے دامن چھڑانے کے لیے بولے "اچھی بات ہے'

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

اچھی بات ہے" ——— اور پھر ایک طرف ہٹ کر سرگوشیاں کرنے لگے۔ "پر یہ فرنگیوں کے سے رنگ ڈھنگ' یہ کہنیوں تک آستینیں' یہ کانوں کی لوؤں تک بالوں کے گچھے۔ یوں بات کرتا ہے جیسے تحصیلدار ہے عدالت میں بیٹھا ہوا۔ یہ کریما پڑھے تو میرا نام بدل دینا۔" شیر جنگ کی جگہ جھنگڑا کہہ دینا۔"

"خفیہ پولیس۔" طوطے کی چونچ ایسے ناک والا ایک بوڑھا نسوار کی ڈبیا کو چٹکی سے بجاتے ہوئے بولا۔ "سمجھے؟ خفیہ پولیس۔ مولبی کے کان نہ کاٹ لے جائے تو جو جی میں آئے کہنا۔"

لیکن محمود ان سرگوشیوں سے بے خبر اپنے حجرے میں بیٹھا کیمرے کو صاف کرتا رہا اور پھر اسے بغل میں لٹکاتا مسجد کی سیڑھیاں اترا۔ پاس ہی سے ایک لڑکا گزر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا۔ "شادی والا گھر کدھر ہے میاں صاحبزادے؟" "میں صاحبزادہ نہیں ہوں۔ میں تو لکھے موچی کا لڑکا ہوں۔"

"پر شادی والا گھر کدھر ہے لکھے موچی کے لڑکے؟" محمود دیہاتی بچوں سے اپنا نفسیاتی کھیل شروع کر رہا تھا۔

لڑکا بولا۔ "پوربی محلے کی بڑی گلی میں۔" اور پھر ناچتا کودتا ایک طرف نکل گیا اور چیخنے لگا کہ بازار لگے گا بڑی گلی میں۔ بنجارا آیا ہے' پٹاخے اور سرمہ اور بھنبھیریاں خریدیں گے ہم!

محمود گھبرایا ضرور مگر اس غلط فہمی کو بچے کی نادانی پر محمول کر کے شادی والے گھر کی تلاش میں چل کھڑا ہوا اور جب ڈھول کی آواز کو ٹٹولتا وہ ایک گلی کا کافی حصہ طے کر لیتا تو سامنے رستہ بند ہو جاتا اور وہ ہرتا پھرتا پھر مسجد کے قریب آنکلتا' کہیں کہیں کتے اس پر جھپٹتے۔ کتوں کو بھونکتا سن کر باڑوں میں بکریاں اور بھیڑیں ممیاتیں اور چھتوں پر بیٹھی ہوئی عورتوں کی گودیوں میں سوئے ہوئے بچے چونک کر بلبلا اٹھتے۔ آخر جب وہ شادی والے گھر کے قریب پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ یہاں لڑکیاں الگ گاتی ہیں اور لڑکے الگ۔ یہاں ولی

پار والی ریتیں نہیں چلتیں۔

محمود نے سوچا۔ "مگر دیہاتی فلموں میں تو میں نے کئی مرتبہ لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے ناچتے گاتے دیکھا ہے۔ یہ عجیب گاؤں ہے۔ کہیں میں یاغستان میں تو نہیں آگیا!"

لیکن یہ یاغستان نہیں تھا۔ پنجاب کا ننھا منا سا گاؤں تھا' جہاں حسن و عشق کو کھیل کھیلنے کے ڈھب نہیں آتے!

بے شمار لڑکیوں کی پتلی پتلی آوازوں کی حیرت انگیز ہم آہنگی سے وہ لذت یاب ضرور ہوا۔ اس کے کانوں میں روشن ستاروں' پیلے چاند' اودے آسمان' سرمئی آنکھوں' طلائی بالوں اور رس بھرے ہونٹوں کی بھنک پڑتی رہی۔ اس نے شہروں کے متعلق بھی ایک گیت سنا۔ جس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے محبوب! شہر کی طرف مزدوری پر نہ جائیو' کیونکہ وہاں بے رحم ریلیں اور اندھی لاریاں ہیں' وہاں کچہریاں اور جیل خانے ہیں' اور یہاں مہندی پور میں نرم رو چھکڑے اور برق رفتار گھوڑیاں ہیں۔ لہلہاتے کھیت اور پرامن چوپالیں ہیں۔ مزدوری کے لیے شہروں کی طرف نہ جائیو میرے محبوب! ——— گیتوں کی اس پھلواری سے یہ گرد آلود گری پڑی کلیاں چن کر وہ واپس آیا اور چوپال پر جا نکلا!

اس نے کوشش کی کہ لوگ اس کی طرف حیرت سے دیکھنے کے بجائے' اس سے سیاسیات کی موجودہ تحریکات' ادبیات کے موجودہ رجحانات اور مذہب کے موجودہ میلانات کے متعلق سوال کریں مگر وہ اپنے محبوب موضوع چھیڑے بیٹھے تھے۔

"برساتی نالے کے پانی کا رخ بدلنے کی ایک ہی کہی۔ میں نے تو ذرا سا ڈھلوان بنا دیا ہے پگڈنڈی کو۔ منوں پانی تیرے کھیت میں جائے گا تو چلّو بھر ادھر بھی آنکلے گا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر کسی کا اجارہ تھوڑا ہے؟"

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

"بات کرو پچھمی گھٹاؤں کی' جو برستی ہیں تو جل تھل ایک کر دیتی ہیں۔ پوربی گھٹاؤں پر تو اللہ کی مار ہے۔ گرجتی دھاڑتی ابھرتی ہیں' اور ہوا میں اڑتے ہوئے کبوتروں کی سی چار بیٹیں پھینکتی نکل جاتی ہیں آسمانوں میں ——— میں نے تو کبھی پوربی گھٹا کو برستے نہ دیکھا۔"

"میں نے دیکھا تھا لاہور میں۔"

"لاہور میں؟ ارے پگلے! بزرگوں کے منہ آتا ہے؟ لاہور میں تو پچھم پورب ہو جاتا ہے اور پورب پچھم!"

بلند قہقہوں میں محمود نے بھی حصہ لیا مگر یونہی بے تحاشا' بے ڈھنگے اور مصنوعی انداز میں جیسے اپنے پیٹ کو خود ہی گدگدیاں کر رہا ہے! ——— دیر تک کسی موقع کے انتظار میں رہا مگر سوشلزم کی اصطلاحات کو چباتا رہ گیا۔

حجرے سے باہر کھاٹ پر لیٹا تو کھویا کھویا' تھکا ہارا تھا ہی' نیند آ گئی اور جب صبح کو اٹھا تو کیمرہ بغل میں لٹکاتا پنگھٹ پر جا نکلا مگر ایک پنہارے سے یہ انکشاف سن کر بھونچکا رہ گیا کہ مردوں کے لئے پنگھٹ کا پرلا کنارہ مقرر ہے۔ اِدھر لڑکیوں کے آس پاس کوئی چھوکرا گھومتا نظر آئے تو پنچائت الٹا لٹکا دے کسی درخت سے!

کیمرے کے نرم چمڑے پر ہاتھ پھیرتا واپس آیا۔ رستے میں لوہار کی دکان پڑتی تھی۔ بوڑھا لوہار بھٹی میں لوہا گرم کر کے اہرنی پر رکھ رہا تھا اور آس پاس بیٹھے ہوئے دہقانوں سے کہہ رہا تھا۔ "لو بھئی اٹھاؤ ہتھوڑا۔ دیکھوں تو تم کتنے پانی میں ہو' سیدھی اور جمی ہوئی ضرب لگانا۔ کلہاڑے کا پھل ہے۔ چپٹا ہونا چاہیے۔ گولائی ہوئی ذرا سی تو چودھری سر پھوڑ ڈالے گا" ——— ٹھکا ٹھک ہتھوڑے پڑنے لگے۔ اہرنی پر دہکتا ہوا لوہا کروٹیں بدلنے لگا۔ اچانک محمود آگے لپکا اور بولا۔ "بھئی! ہتھوڑا دینا مجھے' میں بھی تو دیکھوں ذرا" ——— ہتھوڑا تھام کر اوپر اٹھایا تو ڈگمگا گیا۔ قدم جمائے تو ہتھوڑا اپنے ہی گھٹنے سے

ٹکرا گیا۔ درد کی شدت کو بڑی مشکل سے برداشت کر کے بدحواسی میں ہتھوڑا گھما کر اہرنی پر مارنا چاہا تو ساتھ ہی خود بھی لڑھک گیا' سنبھل کر اٹھا تو دہقان ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور لوہار لوہے کے ٹکڑے کو انگاروں پر دھرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ "کچھ دن باقی تھے جو ہتھوڑا میرے سر سے بالشت بھر کے فاصلے سے گزر گیا ورنہ لوہے کی جگہ انگاروں پر میری کھوپڑی کے ٹکڑے سلگ رہے ہوتے۔ واہ رے شہری بابو۔ آیا ہے وہاں سے کریما پڑھنے۔ تو ہتھوڑا خاک چلائے گا۔ قلم چلایا کر قلم!"

اگر لوہار کی دکان کے سامنے کوئی کنواں ہوتا تو محمود اس میں چھلانگ لگا دیتا۔ کترا کر باہر نکلا اور گاؤں سے پرے ایک چٹان پر بیٹھ کر کتابوں کی رٹی ہوئی تحریروں کو اپنے دماغ کی سلوٹوں میں سے کرید تا رہا۔

دو چار روز اس نے گلیوں کے بے مطلب چکر لگائے کہ محض اتفاق سے' یونہی جاتے جاتے' ——— بھولے سے ——— تقدیر پلٹا کھائے اور کوئی لڑکی مسکرا دے ——— اور اس کے محبوب مصنفین کی تحریریں اس کے ذاتی تجربات کی زد میں آ کر اور اجاگر ہو جائیں ——— مگر وہ چلتی پھرتی بجلیاں اسے دیکھ کر بازو بلند کر کے گاگریں سنبھالتیں اور غصیلی ناگنوں کی طرح موڑ کاٹ جاتیں!

گاؤں سے نکل کر کھیتوں کے چکر کاٹنے لگا مگر کھرپے چلاتی ہوئی لڑکیوں کے دھوپ سے تپتے ہوئے چہرے پرجلال دیکھ کر اس کے دماغ کی نسیں طنبورے کے تاروں کی طرح کھنچ کر رہ جاتیں۔ اور ایک بار تو گنجان کھیت سے قہقہے بلند ہوئے اور پھر آواز آئی۔ "یہ مسافر کیسے چلتا ہے گلابو! بالکل پدی کی طرح پھدک پھدک پھدک! شہری لگتا ہے مجھے۔"

"بڑے فسادی ہوتے ہیں یہ شہری۔" دوسری بولی۔ "فرنگی نے انہیں کئی جادو سکھا رکھے ہیں۔"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

محمود ان کی باتیں سننے کے لیے ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا تو پیچھے سے کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر دہقان لال لال آنکھیں نکالے اسے گھور رہا تھا۔ "کیا کر رہے ہو یہاں؟"

"میں ——— میں ———" محمود کی تعزیرات کی سب دفعات اور ان کی سب تاویلیں بھول گئیں۔ "میں سیر کر رہا تھا۔"

"سیر کر رہا تھا!" دہقان نے محمود کے الفاظ طنزاً دہرائے۔ "تو پردیسی ہے' مسجد میں رہتا ہے' کریما پڑھتا ہے ورنہ وہ بے بھاؤ کی لگاتا کہ سیر ویر کے مزے بھول جاتے بچہ جی کو ——— تو مجھے اشراف لگتا تھا پر یہ کھیتوں میں ہماری بہو بیٹیوں کو جھانکنا تو اشرافوں کا کام نہیں۔ یہ تو کمینوں کے چلن ہیں!"

ادھر سے ایک بوڑھا لاٹھی ٹیکتا آیا' اور ادھیڑ عمر دہقان کا ہاتھ تھام کر بولا۔ "رہنے دے اللہ نواز۔ میں سمجھاتا ہوں بے چارے کو۔" اور پھر محمود کا بازو پکڑ کر ایک طرف جانے لگا۔ دونوں لڑکیاں ایک ہاتھ میں خمیدہ درانتیاں اٹھائے دوسرے ہاتھ سے اڑتی ہوئی اوڑھنیاں سنبھال رہی تھیں اور بہت دور کسی گھاٹی میں کوئی چرواہا گا رہا تھا۔

گوری چالاں چلے البیلیاں
موراں نوں مات کرے!
گوری کالیاں زلفاں کھولیاں
دناں نوں رات کرے!
گوری منڈے ولوں اکھیاں پھیریاں
بھلی کے ناں بات کرے!

گیت کا ہر لفظ لوہار کے بھاری بھرکم ہتھوڑے کی ضربیں بن کر محمود کے شکست خوردہ تصورات کو کچلے دے رہا تھا کہ اچانک بوڑھا رک گیا اور بولا۔ "دیکھ بھئی! تجھے بھلے کی بات کہوں۔ گلیوں میں ننگے سر نہ پھرا کر۔ پگھٹ

پر نہ جایا کر۔ تصویریں نہ اتارا کر۔ سمجھا؟ کسی جی جلے کے پالے پڑا تو پکڑ کر الو بنا دے گا۔ جوانی میں نے بھی شہروں میں گزاری ہے۔ وہاں کسی چیز کی کمی ہے آخر! لڑکیاں دیکھنی ہوں تو تھیٹر چلے جاؤ' گیت سننے ہوں تو گراموفون خرید لو۔ تصویریں اتارنی ہوں تو باغ موجود ہیں۔ ہماری لڑکیاں کھیل تماشے نہیں کرتیں۔ یہ لاہور نہیں۔ بے چارہ ہندی پور ہے۔ سنبھال اپنے آپ کو۔"

محمود کا جبڑہ لٹک گیا۔ بولا۔ "خیال رکھوں گا۔"

جب وہ پلٹا تو لہلہاتے ہوئے کھیت زہر کے موجیں مارتے ہوئے سمندر بن گئے۔ آس پاس ڈھلانوں پر چرواہیوں کے سائے ڈائنوں کی شکل اختیار کر گئے۔ جبڑے میں گیا' تھیلا اٹھایا' اور باہر جانے لگا تو امام صاحب جو مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے' بولے۔ "کہاں چلے مسافر میاں؟ تم سے ایک ضروری بات کہنی ہے!"

"میں سن چکا ہوں سب باتیں۔" محمود بولا۔ "آپ کی مہربانیوں کا شکریہ۔ السلام علیکم۔"

"وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ۔ لیکن ———" امام صاحب نے گھبرائے ہوئے محمود کو مہربان نظروں سے دیکھا۔ "لیکن سنبھل کر جانا بچے! چوپال سے کترا کر دوکانوں والی گلی سے نکل جانا۔ تصویروں والی کل چھپا لینا کہیں۔ دہقان بگڑے بیٹھے ہیں چوپال پر۔ تمہارے متعلق پنچایت ہونے والی ہے۔"

وہ گاؤں سے نکل کر جب ایک درے میں پہنچا تو مڑ کر ہندی پور کو دیکھا ——— اتنی وسیع دنیا میں ایک بھورا سا حقیر و حبہ ——— کھلے میدان پر مری ہوئی چوہیا ——— کیڑوں سے بھری ہوئی! ——— بدبو سے سڑی ہوئی!! ——— اجڈ گنواروں کا وطن ——— آریوں کی آمد سے پہلے کا ہندستان ——— جس نے ایک پڑھے لکھے کھاتے پیتے شہری کو اگل دیا تھا!

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

سٹیشن پر آکر ٹکٹ خریدنے لگا تو کھڑکی کی پرلی طرف سے بابو بولا۔ "سیر ہو گئی مسٹر؟" "جی ہو گئی۔" محمود بولا۔

"اب تک ہو جانی چاہئے تھی۔" بابو نے کٹاک سے ٹکٹ پنچ کیا اور محمود کی طرف پھینک دیا۔

گاڑی میں آکر بیٹھا۔ گھبرایا ہوا تو تھا ہی۔ لوگ گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ قریب ہی بیٹھے ہوئے دہقان نے شریر مسکراہٹ کو ہونٹوں کے پیچھے دبائے رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ "بابو جی! آپ کے منہ پر مکھی بیٹھی ہے۔"

اور محمود بھڑک کر بولا۔ "ہاں ہاں بیٹھی ہے' بیٹھی رہنے دو۔تمہیں کیا؟"

شریر دہقان بولا۔ "مگر کیا آپ نے کوئی بیٹھی——"

"ہاں ہاں۔ میں نے رس گلے کھائے ہیں!" محمود گرج اٹھا۔

لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد سارا کمرہ کرخت قہقہوں سے گونج اٹھا اور اگلے سٹیشن پر محمود کو ڈبہ بدلنا پڑا۔

ایک رات چوپال پر

بھدے سے چولھے کے اردگرد الجھی ہوئی سفید ڈاڑھیوں والے بوڑھے اکڑی ہوئی مونچھوں والے بانکے گبھرو اور گرد آلود بالوں والے ننھے بچے بیٹھے تھے اور گاؤں کا زیلدار دو تین کسانوں کی چادروں کا تکیہ بنائے لیٹا تھا فتو میراثی اور نورا دھوبی اس کے پاؤں داب رہے تھے۔ دیواروں پر پھیلے ہوئے ان کے دھندلے سائے شعلوں کے اشاروں پر دھیرے دھیرے ناچ رہے تھے۔ تڑک تڑک کی آواز سے لکڑیاں جل رہی تھیں' اور چنگاریاں دھوئیں میں لپٹی ہوئی سیاہ چھت کی طرف اڑی جاتی تھیں۔ ایک طرف بوڑھے میراثی شیرو نے حقے کا دور شروع کیا۔ گڑ گڑ کی آواز میں زیلدار نے کروٹ بدلی اور بولا۔

"کیا کہا تھا میں نے؟"

ایک نوجوان آگے جھک کر بولا۔ "آپ ہوٹل والے سے الجھ پڑے اور اس کے جبڑوں میں ایک جلی ہوئی لکڑی گھسیڑ دی۔"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

زیلدار نے ہاتھی دانت کی ننھی سی کنگھی کو کنپٹی کے بھوسلے بالوں میں اٹکاتے ہوئے کہا۔ "ہاں ہاں۔ بس تو لوگ اکٹھے ہوگئے۔ بیچ بچاؤ ہو گیا اور معاملہ ختم ہوا۔ میں وہاں سے وکیل کے مکان پر گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میز پر ایک صندوقچہ رکھا ہے اور وکیل کے سب بال بچے نوکر چاکر اس میں سے گانا سن رہے ہیں!"

میں نے پوچھا۔ "وکیل جی! ریکارڈ کہاں چھپا رکھا ہے اور سوئی کہاں لگاتے ہیں آپ؟"

بولے۔ "یہ ریڈیو ہے ریڈیو۔"

میں نے کہا۔ "یہ کیا بلا ہے؟"

کہنے لگے۔ "ہم اب یہاں سرگودھا میں بیٹھے بمبئی کا گانا سن رہے ہیں!"

"میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے بھی ساری عمر سفر میں گزاری ہے۔ ایک تو مقدموں کا سلسلہ ہی ختم نہ ہوا۔ دوسرے زیلداری کا معاملہ ہے۔ کبھی گواہی پر جا رہا ہوں تو کبھی صاحب بہادر کو سلام کرنے۔ کبھی کوئی اور پیشی بھگتنے۔ سو کام ہوتے ہیں ہم لوگوں کو۔ لاہور میں بھی ایک بار گیا تھا' لیکن میں نے ایسی مشین کہیں نہیں دیکھی کہ سرگودھا میں بیٹھے کلکتے اور بمبئی کا گانا سنتے رہو۔ اصل میں ان وکیلوں کو جھوٹ بولنے کے سوا چین ہی نہیں آتا۔ میں نے ہنس کر کہا۔ کیوں جی! آپ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں کیا؟

"تمام لڑکے بالے ہنس دیئے اور وکیل بھی ہنستے ہنستے کرسی پر جھک گیا۔ میں سمجھا مذاق کر رہے ہیں۔ ان شہریوں کے مذاق بھی عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ ذرا ذرا سی باتوں پر اتنے اتنے اونچے قہقہے لگاتے ہیں جیسے کوئی مسخرہ غضب ڈھا گیا۔ ایک دن میں غلطی سے سرگودھا کے اڈے پر ایک شخص سے پوچھ بیٹھا۔ "کیوں بھئی۔ یہاں سے سرگودھا کا کرایہ کیا ہے؟"

وہ پہلے تو ہکا بکا مجھے گھورتا رہا مگر اچانک اس زور سے ہنسا کہ میرے ہاتھوں سے چھلوں کی ٹوکری گرتے گرتے بچی۔ تمام ڈرائیور اکٹھے ہوگئے۔ کہنے لگے۔ "اجی ملک صاحب آپ سرگودھا میں کھڑے سرگودھا ہی کا کرایہ پوچھتے ہیں!"

"آخر اس میں ہنسی کی کون سی بات تھی۔ جام کی زبان ہے۔ بہک جائے تو کسی کا کیا بس۔ کیوں چچا اللہ یار؟"

سب بوڑھوں نے زیلدار کے بیان کی تصدیق کی۔ زیلدار کہنی کے بل ہو کر بولا "ہاں تو وکیل صاحب بولے۔ "یہ نیا آلہ ہے اور اس کے تار وار کچھ نہیں۔ بس بمبئی میں ایک شخص گا رہا ہے اور ہم اس کا گانا سن رہے ہیں۔"

"میں تو قرآن مجید کی قسم یہ جھوٹ سن کر بہت پریشان ہوا۔ ہزاروں میل دور ایک شخص گا رہا ہے۔ تار وار ہے نہیں' اور وکیل میاں مزے سے اس کا گانا سن رہے ہیں۔ تو گویا خدا ان کے قابو میں آگیا۔ گویا اب لوگوں نے جنوں بھوتوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ اب یہ جن بھوت کا کام نہیں تو اور کیا کہ اچانک وکیل نے لندن پر سوئی گھمائی اور کوئی عورت لمبے لمبے بین کر کے رونے لگی۔ وکیل کہتا تھا۔ "یہ انگریزی گانا ہے۔" مگر اللہ نے مجھے بھی کان دے رکھے ہیں۔ گانے اور رونے کا فرق خوب سمجھتا ہوں۔ اس نئی بات پر حیران تھا کہ وکیل نے مصر پر سوئی گھما دی۔ عربی گانے ہونے لگے۔ لاہور پر گھما دی۔ آواز آئی۔ یہ لاہور ہے! میں تو ہڑبڑا کر کرسی پر جا گرا اور وکیل کے بچوں اور نوکروں چاکروں کو دیکھا تو وہ فرش پر مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ میں غصے میں وہاں سے اٹھ کر سرائے میں آگیا اور دوسرے دن گواہی دے کر گھر چلا آیا۔ میرے دماغ میں یہ بات نہیں سماتی اور اگر یہ بات سچ ہے تو کوئی دن میں قیامت آئی جانو!"

بوڑھا اللہ یار ہاتھ سینک کر چہرے پر ملتے ہوئے بولا۔ "ملک جی!

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

غضب ڈھا رہے ہیں یہ لوگ۔ اڑتی چڑیا کے پر جیسے انہوں نے گنے ہیں' شاید ہی کوئی اور گنے۔ زمانے کا حلیہ بگاڑ دیا ہے انہوں نے' اب اگر ہمارے باپ اور دادا خدا کی قدرت سے زندہ ہو کر یہاں آئیں تو دہل کر پھر مر جائیں۔ ریل دیکھو! کالی کلوٹی لوہے کی مشین پشور سے لہور اور لہور سے دلی تک بھاگتی جاتی ہے اور نہیں تھکتی۔ یہ گرامفن باجا دیکھا آپ نے؟ کون بولتا ہے ان کالے توں میں؟ بس چابی گھما دو۔ سوئی اوپر رکھ دو۔ اور "دلدار کمنداں والے دا۔" "ڈاچی والیا موڑیں مہار وے۔" "بالو۔" "چھئی" جو گانا چاہو سن لو۔ یقین نہیں آتا تھا پر آنکھوں سے دیکھا' کانوں سے سنا' ہاتھوں سے چھوا بھی۔ جادو واد تو ہے نہیں' بس کسی بیچ کی تقصیر ہے کہ آواز کو قید کر رکھا ہے۔ مجید خاں تھانے دار کے بیٹے وحید سے کل میں نے سنا کہ بڑے شہروں میں رات کو تماشے ہوتے ہیں' سفید چادروں پر تصویریں چلتی پھرتی ہیں' گھوڑے دوڑتے ہیں' گاڑیاں بھاگتی ہیں' ایک سفید چادر پر ساری دنیا لا کر رکھ دی۔ مگر مجھے تو اس کا یقین نہیں آتا ملک جی! انگریزی پڑھے ہوئے یہ گٹ مٹ کرنے والے لڑکے جھوٹ بہت بولتے ہیں۔"

ملک صاحب انگڑائی لے کر اٹھے اور حقے کو قریب لانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے "بچا اللہ یار! قسم قرآن مجید کی۔ میں نے ان آنکھوں سے یہ تماشا دیکھا۔ چلنا پھرنا تو ایک طرف رہا یہ تصویریں تو بولتی بھی ہیں۔ ان کے ہنسنے' رونے' بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتی ہیں۔ پانی گرنے کی' کاغذ پھاڑنے کی' دروازہ کھلنے کی! ——— خدا کی قسم سب آوازیں!"

ایک اور بوڑھا بولا۔ "اب آپ کی زبان سے یہ سن رہے ہیں۔ کوئی اور کہتا تو ہم اسے پاگل سمجھتے۔"

زیلدار ذرا جھینپ گیا۔ بولا۔ "ارے بابا! میں نے دو چار بار یہ تماشا دیکھا۔ اب وحید یہاں ہوتا تو گواہی دیتا۔ اس کے ساتھ میں نے ایک تماشا

دیکھا۔ ایک نوجوان کو سات آدمی تلواروں سے مار رہے تھے۔ میں بھول گیا کہ یہ تو صرف تماشا ہے۔ بس چیخ اٹھا۔ "ارے غضب خدا کا' کوئی بھی اس غریب پر ترس نہیں کھاتا۔ ارے خدا کے بندو ایک بے کس بے گناہ پٹا جا رہا ہے اور تم بیٹھے دانت نکال رہے ہو!"

"بھلا ہو وحید کا جس نے بازو سے پکڑ کر مجھے بٹھایا اور بتایا کہ یہ تو صرف تصویریں لڑ رہی ہیں۔ تب جا کر مجھے اپنی غلطی کی خبر ہوئی۔ اتنا دھوکا کھا جاتا ہے انسان!"

"سبحان اللہ سبحان اللہ! غضب کر دیا۔ کمال کر دکھایا!" کی آوازوں سے چوپال کے دھواں دھار کمرے میں ایک دبی دبی سرسراہٹ کی آواز آنے لگی۔

زیلدار نے چادروں کو گول کر کے کہنی کے نیچے دھرتے ہوئے کہا۔ "مگر اس ریڈیو والی بات کو میں مر بھی جاؤں تو بھی نہ مانوں۔ جھوٹ کو سچ کیسے کہوں؟"

کمرے کے کواڑ اچانک چیختے ہوئے کھلے۔ ایک نوجوان سنہری عینک لگائے انگریزی بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا اندر آیا اور ایک طرف بوٹ اتارتے ہوئے بولا۔ "السلام علیکم!" سب نے جواب دیا۔ "وعلیکم السلام!"

ملک جی بولے۔ "آؤ وحید خاں! اچھے ہو؟ تمہاری ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ یار تم سے بدگمان ہے۔ کہتا ہے تصویروں والے تماشے کی بات جھوٹ ہے۔ وحید جھوٹ بولتا ہے۔"

وحید مسکرایا اور اللہ یار کی طرف دیکھ کر بولا۔ "اچھا بابا! جھوٹ ہی سہی' تم نہ مانو۔ بزرگوں کو مجبور کون کرے۔ لیکن میں ان کم بخت آنکھوں کو کیا کروں جنہوں نے خود چلتی پھرتی اور بولتی چالتی تصویریں دیکھی ہیں۔ تمہیں دلیلیں دے کر سمجھاؤں تو بھی تم اسی طرح کورے کے کورے رہتے ہو۔ کل ہی

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

یہاں الاؤ پر زمین کے متعلق بات چھڑ گئی تھی۔ میں نے کہا زمین گول ہے۔ تو چچا اللہ یار برس پڑا۔"

چچا اللہ یار نے ایک لکڑی سے انگاروں کو اکٹھا کرتے ہوئے کہا۔ "وحید خاں! بات سن میری۔ قسم قرآن مجید کی کل تو میں تیری اس بات کو مذاق سمجھا تھا' آج پھر اسے چھیڑ دیا تو بتا زمین کس طرح گول ہے؟"

وحید سنجیدگی سے بولا۔ "اگر یہاں سے کوئی مشرق کو منہ کر کے چلے اور چلتا ہی جائے تو ایک نہ ایک دن پھر یہیں پہنچ جائے گا۔"

چوپال میں ایک قہقہہ بلند ہوا۔ ذیلدار نے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ہنسی روکنی چاہی۔ بچے ایک دوسرے کو ٹھوکے دے کر فرش پر لوٹنے لگے۔ ہنستے ہنستے چچا اللہ یار کی پگڑی کھل گئی۔ آخر کار اس نے ضعیف آنکھوں سے پانی پونچھا اور وحید خاں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ "قیامت تک جئے تیرا پڑھانے والا۔ کیا دلیل دی' اے میں قربان جاؤں! ارے بھئی! میں یہاں سے اٹھ کر تمام گاؤں کا چکر لگا کر پھر چوپال پر آسکتا ہوں۔ لیکن گاؤں تو چپٹا ہے۔ پھر یہ کیسے ہوا؟"

وحید خاں ان قہقہوں سے مانوس تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا۔ "مگر میرا مطلب ایک ہی طرف کو جانے کا ہے۔"

اللہ یار بولا۔ "میں بھی ایک ہی طرف کو جاؤں گا۔ لہور' امرتسر تو نہیں جانے کا۔"

وحید نے کچھ جواب دیا مگر اس کی آواز کرخت قہقہوں اور بے ربط تالیوں کی گونج میں کھو کر رہ گئی۔

چچا اللہ یار نے یک لخت اپنا چہرہ سنجیدہ بنا لیا اور کہنے لگا۔ "اچھا تو وحید خاں! کوئی اور دلیل؟ لیکن دلیلوں کی ضرورت ہی کیا ہے! اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین چپٹی ہے!"

وحید بولا۔ "بابا زمین کے مقابلے میں ہمارا وجود بہت ہی چھوٹا ہے۔ اب اگر چیونٹی بہت بڑی گیند پر بیٹھ جائے تو اسے گیند چپٹی ہی نظر آئے گی۔"

چچا اللہ یار کا چہرہ ہنسی روکنے کی کوشش میں لال ہو گیا۔ "کیا تم چیونٹی بن کر کبھی گیند پر بیٹھے ہو؟"

قہقہوں اور تالیوں کا ایک اور طوفان اٹھا اور دیواروں پر ناچتے ہوئے سائے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔

ذیلدار پکار اٹھا۔ "ارے بابا اللہ یار! قسم قرآن مجید کی' تو نے تو مجھے ہنسا ہنسا کر بے حال کر دیا۔ پسلیوں میں درد ہو رہا ہے۔ تیرے آگے وحید کی کچھ نہیں چلتی۔ سچ کہا تو نے۔ آخر چیونٹی کیا جانے انسان کی باتیں!"

وحید خاں ذرا چیں بجبیں ہو کر بولا۔ "ملک جی! آپ تو سمجھ دار ہیں۔ میں آپ سے ہی بات کروں گا۔ سنئے' آپ گیلی مٹی کی ایک مٹھی لے لیں۔ اور اسے زور سے گھمائیں' جب مٹی تیزی سے گھومے گی تو وہ ہولے ہولے گول شکل اختیار کرنے لگے گی۔ ہر گھومنے والی چیز گول ہوتی ہے۔"

ذیلدار نے کہا۔ "لیکن ہم تو زمین کا ذکر کر رہے ہیں۔"

وحید بولا۔ "زمین بھی گھومتی ہے۔"

ذیلدار نے ہنستے ہوئے کہا۔ "یہ نئی بجلی گری!"

چچا اللہ یار پکار اٹھا۔ "یہی کچھ پڑھا ہے تو نے مدرسے میں! زمین گھومتی ہے! سبحان اللہ! معاف کیجو وحید خاں! مجھے تمہارے دماغ میں کچھ خلل معلوم ہونے لگا ہے۔ زمین پر مکان ہیں' پہاڑ ہیں' سمندر ہیں۔ اگر گھومتے سمندر نیچے آجائیں تو پھر پانی زمین پر کیسے ٹھہر سکے گا؟ پہاڑ کیسے جمے رہ سکیں گے؟ ہم خود کیوں نہیں لڑھک جاتے! اور پھر اتنی عمر بیتی۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی الٹا چلتے نہیں دیکھا سر نیچے ہو اور پاؤں اوپر!

وحید آہستہ سے بولا۔ "زمین کے اندر کشش موجود ہے۔ جو ہر چیز کو

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

اپنی طرف کھینچتی ہے۔"

اللہ یار تڑپ اٹھا۔ "زمین نہ ہوئی مقناطیس کا پہاڑ ہو گیا۔ خاک کے ڈھیر میں کیا کشش ہوگی آخر! زمین میں کشش ہے۔ زمین گھومتی ہے' زمین گول ہے' یہ تو قیامت کی نشانیاں ہے۔"

وحید خاں' ایک تو اپنی ہٹ کا پکا تھا۔ دوسرے اس قدر تجربہ کار بھی تو نہ تھا کہ چپ ہو رہتا۔ بولا۔ "اگر زمین نہیں گھومتی تو پھر دن اور رات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟"

تمام چوپال نے یک زبان ہو کر کہا۔ "سورج گھومتا ہے۔" وحید بولا۔ "نہیں زمین گھومتی ہے۔"

ایک کونے سے ایک سفید ریش بزرگ کھانستا ہوا اٹھا اور وحید کے قریب بڑی مشکل سے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ "خاموش! ایک ذرا سی بات میرے بچے! تو کہتا ہے زمین گھومتی ہے۔ میری عمر نوے سال کے قریب ہے۔ میں نے تیرے پردادا کو بھی دیکھا تھا۔ چوپال کا دروازہ ان دنوں بھی دکھن کی طرف تھا۔ آج بھی دکھن کی طرف ہے اور ہمیشہ دکھن کی طرف رہے گا۔ زمین گھومتی ہے تو اس کا رخ ضرور پورب' پچھم اتر کی طرف پھر جاتا۔ سادہ سی بات کہی ہے میں نے۔ اب اس کا جواب دے!"

خاموشی چھا گئی۔ ایک کونے سے زیلدار کی گائے کی سانسوں کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ وحید بولا۔ "مگر بابا! چوپال تو اپنی جگہ پر کھڑی ہے۔ صرف زمین گھومتی ہے' چوپال تو نہیں گھومتی!"

بوڑھے نے کہا۔ "مگر چوپال زمین پر ہے نا۔ زمین گھومی تو ساتھ ہی یہ بھی گھومی۔ میرے پاؤں گھومے تو ساتھ ہی سر بھی گھوما۔ کیوں؟"

"مگر ــــــ"

مگر وحید کی آواز کسی نے نہ سنی اور تمام مجمع سفید ریش بزرگ کی طرف دیکھنے لگا جو وہاں سے اٹھ کر پھر اپنے کونے میں بازو کا تکیہ بنا کر اطمینان سے لیٹ گیا تھا جیسے وہ تمام دنیا کو فتح کر آیا ہو۔

زیلدار نے پگڑی باندھتے ہوئے کہا۔ "بزرگوں کا دم غنیمت ہے ورنہ وحید نے تو ہمیں لاجواب کر دیا تھا۔"

وحید عینک صاف کرتے ہوئے بولا۔ "ملک جی! واللہ اسی لیے چوپال پر آنے کو جی نہیں چاہتا۔ میری بات کوئی سمجھتا تو ہے نہیں اور پھر گیوں میں ہر کوئی کہتا ہے۔ چوپال پر آیا کرو' چوپال پر آیا کرو۔ آخر کس بات پر آؤں یہاں؟ سادہ سادہ باتیں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کو ریڈیو' سینما پر یقین نہیں آتا!"

چچا اللہ یار ڈاڑھی میں انگلیاں پھیر کر بولا۔ "کیسے آئے جب یہ بات دماغ ہی میں نہیں سماتی!"

چوپال کا دروازہ اچانک کھلا۔ آبنوسی رنگ کا ایک نوجوان تیزی سے اندر گھسا اور پکار اٹھا۔ "ملک جی! سات سات مبارک' لاکھ لاکھ مبارک!"

زیلدار نے چونک کر پوچھا۔ "کیوں کیا بات ہے؟"

کالے آدمی نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ "اللہ نے آپ کو بیٹا بخشا ہے!"

ہر طرف سے صدائیں بلند ہوئیں۔ "مبارک۔ مبارک۔ مبارک!"

چچا اللہ یار مسکراتے ہوئے بولا۔ "سبحان اللہ۔ چھ لڑکیوں کے بعد لڑکا۔ کتنی خوشی کی بات ہے!"

زیلدار نے اٹھ کر کہا۔ "ہاں چچا! بس ایک بزرگ کی مہربانی ہے۔ بڑی منتوں کے بعد ان سے تعویز لایا تھا۔ انہی کی کرامات ہے!"

تمام مجمع کھڑا ہو گیا اور زیلدار کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وحید' اللہ یار کو

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

ایک طرف لے جا کر بولا۔ "کیا کوئی بزرگ لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی بنا سکتا ہے؟ تجھے یقین ہے چچا!"

اللہ یار بولا۔ "ہاں ہاں کیوں نہیں۔ میں بھی تو ایک جوگی کی دعا سے پیدا ہوا تھا۔"

وحید مظر سے منہ لپیٹ کر ایک گلی میں مڑ گیا۔

* * *

آدھورا گیت

پھٹی ہوئی اوڑھنی ایک کیل سے لٹکا کر جب سیماں کھاٹ پر لیٹی تو اسے اندھیرے میں اچانک اجالے کا ایک دائرہ سا ابھرتا دکھائی دیا' اور اس اجالے کے قوسی خط پر اسے بہت سی پرچھائیاں تیرتی نظر آئیں ——— گاؤں کے نوجوانوں کی پرچھائیاں جن کے لمبے لمبے بال تھے۔ مسکراتے ہوئے چہرے تھے' اور کانوں میں سونے کی مرکیاں تھیں۔ یہ پرچھائیاں کبھی سمٹ کر دور نکل جاتیں' کبھی لپک کر قریب آجاتیں اور ایک پرچھائیں تو ہولے ہولے سرکتی سیماں کے پاس آگئی اور اس کے گال چھو لئے گھبرا کر اس نے اپنے گال پر ایک ہلکا سا طمانچہ مار دیا اور پھر جب اس نے اِدھر اُدھر دیکھا تو چاروں طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ صحن میں بیری کا درخت دم بخود کھڑا تھا اور گھڑوں کے قریب ایک سوراخ میں نڈا چلّا رہا تھا ——— جاگتے میں خواب دیکھنا سیماں کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا اور ان خوابوں پر گاؤں کے بانکے نوجوانوں کی پرچھائیاں چھائی رہتی تھیں ——— مسکراتے ہوئے چہروں اور تڑپتی ہوئی مرکیوں والے البیلے گبھرو! ——— اسے کبھی اپنے مرحوم ماں باپ کا خواب سوتے میں بھی دکھائی نہ دیا'

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

جو قحط اور بڑھاپے کا شکار ہو چکے تھے۔

وہ اس کوٹھڑی میں اکیلی رہتی تھی۔ دن بھر کھاتے پیتے گھروں کے لیے چکی پیستی اور شام کو دو لقمے زہر مار کر کے کھاٹ پر دراز ہو جاتی۔ پانی بھرنے جاتی تو چھوکریوں سے چہلیں بچاتی اور کتراتی ——— اور جب کسی لڑکی کی آنکھوں سے آنکھیں مل جاتیں تو وہ قہقہے بلند ہوتے کہ وہ آدھی گاگر پر ہی اکتفا کر کے گھر لوٹ آتی۔

اس کے گھر کے چھوٹے سے آنگن میں بیری کا لمبوترا سا درخت مرے ہوئے دیو کے سوکھے ہوئے پنجر کی طرح ایستادہ تھا جس پر نہ کبھی سبز طوطے آکر بیٹھے اور نہ شوخ مولے' بلکہ بھولے بھٹکے کوے اور بھوکی پیاسی چیلیں بے جان پر پھڑپھڑاتی' سوکھی ڈراؤنی شاخوں سے ٹکراتی' اس کے تنے سے چمٹ جاتیں اور پھر کوئی عجیب سی بولی بول کر اڑ جاتیں اور اندھیرے میں ان کے خوفناک سائے دیر تک منڈلاتے رہتے۔ گاگروں کے قریب جہاں دیوار میں ایک سوراخ تھا' آدھی رات کو ایک مُڈا پیں پیں پکار اٹھتا۔ سیماں کی آنکھ کھل جاتی اور مُڈے کی مسلسل کھروری پیں پیں سے تنگ آکر جب وہ سوراخ پر اپنا جوتا پٹختی' تو اسے اچانک یوں محسوس ہوتا جیسے اس مظلوم مُڈے کا وجود پھولنے اور پھیلنے لگا ہے اور وہ اپنی بے ڈھنگی ٹانگیں گھما گھما کر چلتا ہوا اس کا گلا دبوچنے کے لیے بڑھا آرہا ہے۔ دراصل اسے ہر چیز سے ڈر لگتا تھا۔ اندھیرے میں گاگریں دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوتا جیسے بے شمار بونے اس کی ناک میں بیٹھے چھریاں تیز کر رہے ہیں۔ چھت کی منڈیریں اکثر ابھرنے لگتیں' حتیٰ کہ آسمانوں میں دھنس جاتیں اور پھر سیماں کے کانوں میں اس شدت کی گرج سنائی دیتی کہ وہ چیتھڑوں بھرے بستر پر سمٹ کر گٹھڑی بن جاتی اور جب گھبرا کر آنکھیں کھولتی' تو منڈیروں پر اسے کئی اچھوتے سائے کلیلیں کرتے نظر آتے۔ زندگی کے متعلق اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کئی بار سوچا اور وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ

www.iqbalkalmati.blogspot.com

زندگی سوت کی انٹی ہے۔ احتیاط سے دھاگا اتارو تو طویل ہوگی ورنہ ہر لمحہ باریک تار ٹوٹنے کا احتمال ہے اور وہ اکثر حیران ہوا کرتی تھی کہ اس کی زندگی کا تار کیوں نہیں ٹوٹتا' جب کہ فاقوں کے فولادی اور نکیلے پنجوں نے کئی بار اس کی سانسوں کے تانے بانے کو الجھا سا دیا تھا۔

چکی کی گھمر گھمر میں وہ اکثر اس حد تک کھو جاتی کہ اناج ختم ہو جاتا اور خالی چکی کی بھیانک کھسر پھسر سے محلے والیاں چونک اٹھتیں اور ناکوں پر انگلیاں رکھے' گردنیں ایک طرف جھکائے پتلیاں نچاتی' جب سیماں کے پاس آتیں تو دیکھتیں کہ گو اس کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن وہ سو رہی ہے۔ اس کی نظریں سامنے دیوار کے کسی موہوم نقطے پر پیوست ہیں۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا ہے اور چکی اس تیزی سے گھوم رہی ہے کہ نورے درزی کی مشین کی ہتھی بھی کیا گھومتی ہوگی۔ "سیماں!" کہہ کر سب کی سب اس پر ٹوٹ پڑتیں اور جب وہ دیکھتی کہ آٹا تو کب کا پس چکا اور وہ خالی چکی گھمائے جا رہی ہے تو لرز جاتی۔ شرمندہ ہو کر آٹا سمیٹنے لگتی۔ محلے والیاں دوپٹوں میں ناکیں چھپا چھپا کر ہنستیں اور چکی کی مالکن بانہیں پھیلا پھیلا کر اسے کوسنے دیتی۔ "کل ہی تو تیرے باپ بنو لوہار نے چکی پر دن بھر ہتھوڑے چلائے' آج پھر دونوں پاٹوں کو رگڑے جا رہی ہے۔ اب اتنے گھسے ہوئے پاٹوں میں اناج خاک پسے گا! یہاں بیٹھی خواب دیکھا کرتی ہے اپنے سوتوں کے' رانڈ کہیں کی۔ اب جا! کوئی اور چکی والا گھر تلاش کر۔"

اور سیماں کوئی اور چکی والا گھر تلاش کر لیتی۔ لیکن یہ خواب ——— یہ ان ہونے خواب وہاں بھی آدھمکتے' اور سامنے بھوری دیواروں پر ایسے نقوش ابھارتے کہ اناج ختم ہو جاتا اور چکی کی گھمر گھمر کھسر پھسر میں تبدیل ہو جاتی!

ایک بار تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنی کمائی سے پیسہ پیسہ اکٹھا کر کے اپنی نئی چکی خرید لے' لیکن یہ سن کر وہ بے حد معتجب ہوئی کہ چکی کے پتھر جنگ کی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

وجہ سے بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور آج کل سرکار نے پتھروں پر بھی ٹیکس لگا رکھا ہے۔

پھٹے پرانے گودڑوں کو دن بھر دھوتی رہتی' پیٹتی اور دھول سے سنے ہوئے یہ چیتھڑے جب بدبو اور میل اگلتے' اور دیسی صابن کا جھاگ خواب آلود آواز میں شور کرنے لگتا' تو وہ ایک چادر میں لپٹی ہوئی انہی ان ہونے خوابوں میں ڈوب جاتی۔ کائنات چپ سادھ لیتی' ہوائیں تھم جاتیں' سائے جم جاتے اور سیماں کے گرد آلود دماغ میں سوت کی انٹیاں اور نازک تار گھومنے اور پھیلنے لگتے۔ نیم وا ہونٹوں میں ایک غیر محسوس سی لرزش پیدا ہوتی' ابروؤں کی کمانیں جھک آتیں' آنکھوں کی گہرائیاں اندھیری ہو جاتیں اور وہ سوچتی رہتی کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے اور کب تک رہے گا۔ کیا اور کیوں اور کب کا یہ طوفان لمحہ بہ لمحہ زور پکڑنے لگتا اور وہ چیتھڑوں کو کھردرے پتھروں پر اس زور سے مروڑتی کہ وہ چھرر چھرر پھٹ کر چیخنے لگتے اور پھر جب وہ خشک ہو جاتے تو وہ ایک رنگ آلود سوئی لے کر بیٹھ جاتی اور تب تک یہ چاک سیتی رہتی جب آسمان کی دھند لاہٹوں میں سفید سفید چنگاریاں سی بکھر جاتیں اور چیلوں اور کوؤں کے لمبے لمبے سائے فضاؤں میں سرسرانے لگتے۔

وہ ایک دوپہر کو اپنے چیتھڑے دیوار پر پھیلا رہی تھی کہ اسے گلی میں لوگوں کا شور سنائی دیا' اور چونکہ وہ ہر بات میں دلچسپی پیدا کر کے اپنا من پرچانے کی دھن میں رہتی تھی' اس لیے الٹا سیدھا چولا پہن کر بھاگی اور دیکھا کہ گلی میں بہت بھیڑ ہے۔ بوڑھے' جوان اور بچے ایک دوسرے پر گرے پڑتے ہیں' ڈھول بج رہا ہے' شہنائیاں گونج رہی ہیں اور چھتوں پر نوجوان لڑکیاں پھولوں کی جھولیاں بھرے کھڑی ہیں۔ وہ کسی سے یہ نہیں پوچھ سکی کہ آج کون سا تہوار ہے' کیونکہ اسے یقین تھا کہ لوگ اس پر ہنس دیں گے۔ ایک دو عیدیں آئیں اور گزر گئیں' اور پھر کئی روز بعد اسے معلوم ہوا کہ عید بھی

آئی تھی' لوگوں نے بھڑکیلے لباس پہنے تھے' مرغن کھانے بھی پکے تھے' مولوی جی نے پرانی کالی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر غریبوں اور بے کسوں کی امداد کرنے کی درخواست بھی کی تھی اور پھر اس کے بعد خود جھولی پھیلا کر قرآن مجید کی آیات اس رقت سے پڑھی تھیں کہ لوگوں کے نئے کپڑے آنسوؤں سے بھیگ گئے تھے۔ خدا جانے کیا بات تھی کہ عید سے کئی روز پہلے اور عید سے کئی دن بعد وہ گوشہ نشین سی ہو جاتی اور پھر جب گھر سے نکلتی تو عید گزر چکی ہوتی اور گوری ہتھیلیوں پر مہندی کے رنگ پھیکے پڑ چکے ہوتے۔

اچانک گلی کے تنگ موڑ پر ایک شخص ایک انبوہ میں گھرا ہوا نمودار ہوا۔ قدم قدم پر مسکراتا ہوا خوبصورت اجنبی! لمبے لمبے بالوں اور ننھی ننھی سنہری مونچھوں والا البیلا نوجوان ——— سیماں سوچ میں پڑ گئی! ——— چھتوں پر سے سرسوں کے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ فضا میں پیلے پیلے تارے سے بکھر گئے اور' ان میں اس اجنبی کا چاند سا چہرہ بہت بھلا معلوم ہونے لگا۔ سیماں کے دل میں ایک الجھن سی پیدا ہوئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھی کچھ تو اس اجنبی کی نذر کرے جس کی ہر حرکت پر گاؤں والے قربان ہو رہے تھے اور جب وہ اجنبی اس کے قریب آیا' تو وہ گھبرا سی گئی۔ ہاتھ بڑھایا مگر چیتھڑے میں الجھ گیا۔ بے قرار ہو کر ہاتھ کو جھٹکا دیا' اور نئے ٹانکے ٹوٹ کر بکھر گئے' لپک کر سرسوں کا ایک پھول خاک پر سے اٹھایا اور نوجوان اجنبی پر نچھاور کرنے کے لیے اٹھی تو کائنات کے دور دراز گوشوں سے نقرئی گھنگھروؤں کی جھنجھناہٹیں بلند ہوئیں اور ہوا میں دھوئیں کے سے بل کھاتی اس کے دل و دماغ میں تڑپنے لگیں۔ نوجوان ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھا کر سیماں نے سرسوں کا پھول ہوا میں اچھال دیا۔ پھول نوجوان کی سنہری مونچھوں میں اٹک گیا۔ مسکرا کر وہ پھول اس نے جیب میں ڈال لیا اور پھر ہمراہیوں سے کچھ کہتا آگے بڑھ گیا۔ اس کی آواز ڈھول شہنائیوں اور لوگوں کی مسرت بھری چیخوں میں ڈوب گئی۔ وہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

کچھ نہ سن سکی، مگر اسے اتنا ضرور محسوس ہوا کہ نوجوان نے اس کا مذاق اڑایا ہے!

لیکن وہ تھا کون!

وہ بے قرار سی ہوگئی اور ہمت باندھ کر ایک بڑھیا سے پوچھ ہی لیا۔

"خالہ یہ شخص کون ہے؟"

اور بڑھیا ناک بھوں چڑھا کر بولی۔ "تو جا کر گھر میں خواب دیکھ خواب! تو اتنا بھی نہیں جانتی کہ ہمارے گاؤں میں ملک کا اتنا بڑا شاعر آیا ہے، ایسے ایسے گیت اور دوہے بناتا ہے کہ ولایت والے بھی جھوم جھوم جاتے ہیں!

"اچھا، تو بہت بڑا آدمی ہے یہ اجنبی!" سیماں نے اپنے جی میں کہا، اور ہولے ہولے قدم اٹھاتی گھر آگئی۔ اس کے جی میں امنگ اٹھی کہ وہ بھی کوئی بیت کہے۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ دنیا کے سب لوگ بیت نہیں کہہ سکتے، حالانکہ بیت عام باتوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتے۔ بہت دیر تک سوچتی رہی کہ وہ بیت کیسے کہے، اور اس بیت میں کون سی بات کہے اور پھر اسے کیسے گائے اور کسے سنائے!

نصف شب کو اچانک گاگروں کے قریب سوراخ میں سے ٹڈا چیخا۔ اس نے جو آٹا اٹھایا اور گھما کر ٹڈے پر پھینکنے ہی والی تھی کہ اس کا ہاتھ رک گیا۔ ٹڈے کی پیں پیں میں اسے ایسے سریلے بول سنائی دینے لگے جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ دور آسمان کے گنبد میں ستارے لٹک رہے تھے۔ بیری کا بوڑھا درخت طوبیٰ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ منحنی دیواروں پر اسے الف لیلہ کی شہزادیوں کے محلوں کا گمان ہونے لگا۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلنے لگی اور جسم و جان کی اس خلش آمیز بے چینی میں اسے ایک ایسی لذت محسوس ہوئی کہ اس کے ہونٹ مسکرانے کی جرأت بھی کرنے لگے۔ وہ مسکرائی اور یوں ہی وارفتگی میں کچھ گنگنانے لگی۔

نانا نانا نن نن نانا نن نن نانا نانا

اس کی آنکھوں پر پپوٹے جھک آئے؟ اور اس سیلی "نانا نانا" کی دھندلاہٹوں میں سے ایک رکا رکا گیت ابھرا:

مجھ سے بیت نہ کرنا

بانکے

مجھ سے بیت نہ کرنا!

"بیت؟" اچانک اس نے اپنے آپ سے پوچھا، اور پھر اپنے منہ پر ہلکا سا طمانچہ مار کر بولی۔ "پگلی!"

لیکن گیت کے ابتدائی بول ڈھل چکے تھے اور "بیت" کا لطیف لفظ اس کے دل و دماغ میں تیر چکا تھا!

کیسی بیت؟ کس کی بیت؟ اس نے پھر گھبرا کر اپنے آپ سے پوچھا، کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر تیزی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ اس کے بال کھاٹ سے نیچے لٹک کر زمین کو چھونے لگے اور اس کا لباس بستر کے گودڑ میں خلط ملط ہو گیا۔ وہ پھر گنگنانے لگی:

نانا نانا نن نن نانا نن نن نانا نانا

مجھ سے بیت نہ کرنا

بانکے

مجھ سے بیت نہ کرنا!

اور پھر آپ ہی آپ!

میں دکھیاری، غم کی ماری

مجھ سے بیت نہ کرنا!

"گیت بن رہا ہے!" اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی ——— "آپی آپ بنے جا رہا ہے، مجھ سے بیت نہ کرنا بانکے! ——— پر بیت کیسی؟ بانکا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

کون؟"

وہ گھبرا گئی' اس نے چاہا اٹھ کر کوئی کام کرے تاکہ یہ پیت اور یہ بانکپن کی باتیں اس کے دماغ سے بھاگ جائیں۔ وہ اندر سے چھاج اٹھا لائی اور خالی چھاج پٹخنے لگی۔ لیکن چھاج کی "پٹخ پٹخ' پٹخ!" نے اسے پھر کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا! اور وہ گنگنانے لگی۔

مجھ سے پیت نہ کرنا

بانکے

مجھ سے پیت نہ کرنا!

یہ باسی مرجھائی کلیاں' یہ آشائیں میری
بھول کے بھی ان پر نہ پڑیں گی مست نگاہیں تیری
دم نہ وفا کا بھرنا

بانکے

مجھ سے پیت نہ کرنا!

مسرت آمیز تعجب نے اس کی سانسیں الجھا دیں۔ اس نے چھاج پرے پٹخ دیا اور پھر اس بند کو کئی بار گنگنایا۔ کھاٹ پر لیٹ کر چٹکی بجانے لگی اور یہ بند کئی بار الاپا۔ بہت دیر بعد وہ یونہی گیت گنگناتی' چٹکی بجاتی' سو گئی ——— اور جب اٹھی تو گھناؤنی بیری کے کالے تنے سے کوے اور چیلیں لپٹی ہوئی تھیں اور اس کے مکان کی چھت پر ایک بلی اپنا بچہ منہ میں اٹھائے بھاگی جا رہی تھی۔ اسے یہ ساری کائنات ایک رس بھرا سپنا معلوم ہونے لگی۔ لیکن گیت کا وہ بند اسے ازبر تھا اور خوابوں کی باتیں یوں ازبر نہیں ہوا کرتیں۔

اس روز گاؤں سے باہر ایک کھلی چراگاہ میں گاؤں والے اکٹھے ہوئے۔ سرسوں کے پھولوں کا ایک تخت بنایا گیا جو چراگاہ کے عین وسط میں تھا۔ تمام علاقے سے لوگ جوق در جوق آنے لگے اور جب ڈھول بجنا شروع ہوا تو

عورتیں بھی چراگاہ کو جانے لگیں۔ سیماں اپنے مکان کی چھت پر سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب سارا گاؤں خالی ہو گیا تو وہ باہر گلی میں آئی' دیواروں سے لگتی' ہٹتی' ہچکچاتی میدان کی طرف بڑھی' اور جب سامنے دیکھا تو میدان لوگوں سے پٹا پڑا تھا۔ شاعر سرسوں کے تخت پر سے اٹھ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور پھر ایک جگہ آکر رک گئیں۔ سیماں کو محسوس ہوا کہ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ چراگاہ کے کنارے پر سیماں کے سوا کوئی اور موجود نہ تھا۔ سیماں کے جی میں آئی کہ واپس چلی جائے' بھاگ جائے وہاں سے اور اپنے سنسان گھر میں خوفناک بیری کے تنے کا سہارا لے کر اپنی خیالی دنیا میں کھو جائے' کیونکہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ شاعر اس کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ اس نے چیتھڑوں میں سے جھلکتے ہوئے اپنے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کی' ایک بار پلٹی بھی! لیکن سب عقیدوں کو وہم پر محمول کر کے وہ چراگاہ کی طرف بڑھی اور جب عورتوں کے جمگھٹ میں پہنچی' تو دوشیزائیں اسے تعجب سے گھورنے لگیں اور سرگوشیاں کرنے لگیں۔ "اری! سیماں بھی گیت سننے آئی ہے! یہ بھلا کیا سمجھے گی یہ باتیں! چکی پیسنے والی کو گیتوں سے کیا لگاؤ!" ——— سیماں نے ان کی سرگوشیاں سن لیں اور اس کے چاروں طرف رات کا گیت گونج اٹھا' لیکن وہ ان ناداں لڑکیوں کو کیسے سمجھاتی' کہ گیت سمجھنا تو ایک طرف رہا وہ تو گیت کہتی بھی تھی اور پھر اس کے گیت میں "پیت" اور کسی "نامعلوم بانکے" کا بھی ذکر تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ صرف ان کی پیتیں چھپی رہ سکتی ہیں جن کے پاس پیسہ ہو! اس لیے وہ ان سرگوشیوں سے کان پھیر کر شاعر کی طرف متوجہ ہوئی' تمام مجمع پر سکوت طاری تھا۔ سورج کی زرد زرد کرنیں آس پاس نیم اور شیشم کے درختوں کی جھولتی ہوئی شاخوں پر کھیل رہی تھیں اور چڑیوں کے غول چہچہاتے ہوئے چراگاہ پر سے گزر رہے تھے۔ شاعر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک گیت گایا' جس کا مفہوم یہ تھا کہ:

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

اے چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی نادان حسینہ!
تو نہیں جانتی کہ تیری روح کی گہرائیوں میں
کائنات کے مقدس راز پوشیدہ ہیں!
تو نہیں سمجھتی کہ تیری پلک کی سی خوبصورت
آنکھوں میں آفاق کا دل دھڑک رہا ہے!
تو نہیں جانتی کہ وقت کے قدم تیری
معطر سانسوں کے زیر و بم سے ہم آہنگ
ہو کر اٹھتے ہیں!
اور تو نہیں سمجھتی کہ تیرے پریشان کاکلوں
کی پر اسرار ظلمتوں میں کیسے کیسے فردوسی
چراغ ٹمٹما رہے ہیں!
تو سب سے الگ کیوں کھڑی ہے؟ تو دیر
سے کیوں آئی ہے؟ تو کس سوچ میں ہے؟
انجان حسینہ!
تو مجھ سے کترا نہیں، بلکہ میری راتوں پر
اپنی مسکراہٹوں کا ہن برسا! اور جان لے
کہ جو کچھ میں نے تجھ میں دیکھا، وہ کوئی
دوسرا نہیں دیکھ سکتا!
اے چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی نادان ساحرہ!

دم بخود دہقان جو یہ گیت صرف اس لیے سن رہے تھے کہ وہ ان کے محبوب شاعر کی زبان سے نکل رہا تھا، گیت ختم ہوتے ہی پہلو بدلنے لگے۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور ہونٹ کپکپا رہے تھے اور گو وہ یہ گیت نہ سمجھ سکے، لیکن یہی کیا کم تھا کہ گیت گانے والے کے چہرے کے اردگرد ایک

زریں ہالہ نمودار ہو رہا تھا۔ اس کی آواز کی کرنیں زرد کرنوں سے دھلے ہوئے خلاؤں میں عنبر اور لوبان کے خوشبودار دھوئیں کی طرح مست مست پلٹے کھا رہی تھیں اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کائنات کا نظام صرف یہ گیت سننے کو لمحہ بھر کے لیے تھم گیا ہے۔

سیماں کو شک گزرا کہ شاعر نے صرف اسے مخاطب کیا ہے! آخر یہ چیتھڑے، اور یہ دیر سے آنا، اور انجان حسینہ، اس کے گیت میں آپ ہی آپ کیسے آ گئے! لیکن پھر وہ سوچنے لگی کہ گیت رات کی رات نہیں بنائے جا سکتے، اور وہ خیالی بہشت میں اڑی پھر رہی ہے۔

اس کے بعد شاعر نے اپنی نقرئی آواز میں کئی گیت گائے۔ "ایک صحرا میں ایک اکیلا دکیلا پھول تھا" ——— اور "ایک پہاڑی پر ایک کونج رہا کرتی تھی جس کا ایک پر ٹوٹا ہوا تھا!"

اور "مسکراؤ نہیں اے شریر ستارو! ——— مسکراؤ نہیں!" ——— اور خدا جانے کیسے کیسے گیت، مگر جلد ہی سیماں کا دل بھر آیا۔ اس کے دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے۔ شاعر کے گیتوں نے اس کے احساسات کے اردگرد ایک آگ سی روشن کر دی اور اس کی آنچ سے اس کا سارا جسم دہکنے لگا۔ گیت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ چراگاہ سے بھاگ آئی اور جب گاؤں میں داخل ہوئی تو ہوا کا ایک آوارہ جھونکا چراگاہ سے شاعر کا یہ سریلا بول اڑا لایا۔ "اسے اکیلا رہنے دو کیونکہ حسن خلوتوں میں اپنے پورے شباب پر ہوتا ہے!" وہ سوچنے لگی، کہ شاعر کی ہر بات میں اس کی طرف یہ اشارے کیسے چھپے ہوئے ہیں اور یہ کیا راز ہے کہ شاعر گیت گاتے ہوئے صرف اسے دیکھ رہا تھا اور وہ سرسوں کا ایک ہی پھول اور پھر وہ تبسم بھرا چہرہ! کھاٹ پر گری تو اس کے آس پاس گھنٹیاں سی ٹنٹنانے لگیں۔ ٹناٹناٹن! ٹناٹناٹن! اور اس نے پھر وہی گیت الاپنا شروع کر دیا:

مجھ سے پیت نہ کرنا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

بانکے

مجھ سے بیت نہ کرنا!

اس روز جب وہ ایک زمیندار کے گھر چکی پیسنے گئی تو مغربی افق غبار آلود ہو رہا تھا اور فضا پر ایک منتظر سا سکون طاری تھا جیسے کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہو۔ ایک بار وہ پانی پینے کے لیے چکی والے کمرے سے باہر آئی تو آسمان پر ابر گھر آیا تھا اور صحن میں نیم کی جھکی ہوئی شاخیں تیز ہوا کی وجہ سے کمانیں بن کر آسمان کی طرف اٹھ اٹھ جاتی تھیں۔ شام قریب آچکی تھی اور اس کی چنگیر میں ابھی تھوڑی سی گندم باقی تھی۔ لپک کر وہ اندر گئی بنھی کو مضبوطی سے تھام کر پاٹوں کو اس شدت سے گھمایا کہ آٹا سفید غبار سا بن کر اس کے اردگرد اڑنے لگا۔ اور اس کے بالوں کی تابانیاں سنولا سی گئیں۔ وہ اب خواب دیکھنے کے اس دور میں پہنچ چکی تھی جب چکی کی گھر گھر کوئی اور تان چھیڑ دیتی تھی کہ اسے باہر زمیندار کی بہو بیٹیاں باتیں کرتی دکھائی دیں:

سیماں نے چکی روک لی۔

"اری! اس نے تو ابھی تک شادی نہیں کی' عورت کی طرف دیکھنا بھی پاپ سمجھتا ہے وہ۔ بس بیت کہتا ہے اور مگن رہتا ہے!"

"شعر کہنا اور مگن رہنا اور بات ہے پر بی بی' اس کی آنکھیں بڑی خطرناک ہیں۔ کبھی کبھی پلکیں اٹھاتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے' جیسے برسوں کا بھوکا ہے!"

"اوئی۔ کیسی کھلی بات کہہ دی کوئی سن لے تو کیا کہے! چراگاہ میں آج جب اس نے گیت گائے تو اس کے چہرے پر کیسا نور آگیا تھا! اس کے ہاتھ یوں ہلتے تھے' جیسے ——— جیسے وہ ستاروں کو حکم دے رہا ہے کہ زمین پر اتر آئیں اور خاک کے ذروں سے کہہ رہا ہے کہ وہ اوپر اڑ کر آسمانوں کو دھندلا دیں!"

"چار کتابیں کیا پڑھ لیں سارے جہان کا علم ہضم کر ڈالا! انسان اور

تاروں پر حکم چلائے۔ عقل کے ناخن لو!"

"پردہ رہتا کس کے گھر ہے؟"

"گاؤں کے پورب میں جو اجڑا سا ٹیلا ہے نا۔ اس کے ورے تم نے ایک کھنڈر سا دیکھا ہوگا' جہاں اس روز الو بولا تھا' اور تم نے کہا تھا' یہاں کوئی آفت ٹوٹے گی!"

"کہاں؟"

"اری وہ نالے کے اس طرف گارے سے تھوپا ہوا گھروندا' جس کا گارا کب کا گر چکا ہے اور اب پتھروں کا انبار دکھتا ہے دور سے!"

"ہاں ہاں!"

"بس وہیں ——— کہتے ہیں وہ اجاڑ جگہ رہنا پسند کرتا ہے اور کہتا ہے اسے لالٹین والٹین کی بھی ضرورت نہیں۔ مٹی کا میلا سا دیا ہو اور بس ——— وہ رات بھر گیت بناتا رہے گا اور پھر آج تو ابر بھی گھر آیا ہے۔ کہتے ہیں یہ گیت بنانے والے بوندیں پڑتے ہی قلم اٹھا لیتے ہیں اور ساری ساری رات ——— ارے! یہ تو بوندیں گرنے لگیں!"

اور اندر سیماں کے تپتے ہوئے دماغ پر جیسے کسی نے خنک پھوار کی ایک مٹھی چھڑک دی۔ "اچھا تو ٹیلے کی پرلی طرف کا کھنڈر جہاں الو بولتے ہیں ——— وہاں رہتا ہے یہ عجیب و غریب شاعر ——— یہ انوکھا! اجنبی!"

آٹا دیتی' دوپٹہ لیتی وہ گھر کی طرف لپکی۔ گھر آنے تک بھیگ گئی' چیکٹ چولا جسم سے چمٹ گیا۔ میلا لہنگا ہر قدم پر چپڑ چپڑ بجنے لگا۔ گھر آکر اس نے پرسوں کی خریدی ہوئی کھجور کھائی اور کواڑ کھول کر دیر تک آسماں کی طرف دیکھتی رہی۔ باہر مینہ کے جھالے پڑ رہے تھے۔ صحن میں بیری کے درخت کا بنجر دم بخود کھڑا تھا اور ٹڈا بے وقت بول رہا تھا!

"ٹیلے سے پرے' جہاں الو بولتے ہیں!" ——— اس کے کان میں

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

سرگوشی ہوئی اور وہ کواڑ بند کرنا بھول گئی۔ گلی سے نکل کر وہ گاؤں کے باہر آگئی۔ ہوا بہت تیز تھی۔ بجلی کی چمک سے سنسناتا ہوا اندھیرا غائب ہوتا تو وہ سمٹ کر بیٹھ جاتی اور یونہی گرتی پڑتی جب وہ ایکبار بجلی کی چمک سے ڈر کر دبک گئی تو اس کی مٹھیوں میں ریت بھر گئی۔ "ٹیلا" اس نے زیر لب یہ لفظ کچھ ایسی شدت سے کہا کہ اگر خاموشی ہوتی تو گاؤں کے کتے اس پھنکار سے پھڑک اٹھتے۔ جب وہ ٹیلے پر چڑھی تو اس کا لباس بری طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اس کے بال اس کی گردن سے چھٹ گئے اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے سارا ٹیلا ناچ رہا ہے۔

کھنڈر میں سے مدھم مدھم روشنی باہر آرہی تھی۔ وہ ہولے ہولے کھسکتی کھنڈر تک پہنچی اور جب اس کی دیوار کو چھوا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے پراسرار شاعر کو چھو لیا ہے۔ رگ و پے میں کئی خوابیدہ تار جھنجھنا اٹھے' بارش جیسے تھم گئی اور آسمان کے بھیگے جھروکوں سے جیسے کئی حوریں یہ انوکھا ناٹک دیکھنے لگیں!

اس کا ایک قدم اٹھتا تو چکی کے پاٹ ہزار دفعہ اس کے دماغ میں گھوم جاتے اور پھر جب اس نے سامنے دیوار میں مٹی کا ایک دیا بھی دیکھا جس کی زرد لو کے اردگرد بے شمار پتنگے گھوم رہے تھے اور جس کی نوک سے دھوئیں کی ایک مبہم سی سیدھی لکیر نکل کر کئی بل کھا جاتی تھی تو اس کی آنکھیں جل اٹھیں اور پلکوں پر اٹکی ہوئی بوندیں چنگاریاں بن گئیں اور پھر!

اور پھر اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ دھرا اور آواز آئی ——

"کون ہے تو؟"

"سیماں۔" اس نے خوف آلود بھولپن سے کہا۔

"سیماں کون؟" بولنے والا اب اس طرف گھوم آیا اور سیماں نے دیکھا کہ وہ شاعر تھا جس نے چراگاہ میں میٹھے میٹھے گیت گا کر فضا میں عطر چھڑک

دیا تھا۔ اس کے لمبے بالوں سے پانی کے قطرے اس کے شانوں پر گر رہے تھے۔ اس کا لباس تر بتر تھا اور اس کی آنکھیں نیم وا تھیں۔

"کون سیماں؟" اس نے پھر پوچھا۔

اور سیماں گھبرا کر بولی۔ "سیماں —— چکی پیسنے والی۔"

اور شاعر کے ہونٹوں پر ایک سرشار مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس نے کچھ سوچ کر آسمان کی طرف دیکھا اور کھنڈر میں جاتے ہوئے بولا —— "اندر آجا سیماں!"

"جی بس' اب میں جاتی ہوں۔" سیماں بے بس ہو کر بولی۔

"لیکن یہاں آئی کیسے؟"

"رستہ بھول گئی تھی۔"

"کہاں جانا تھا تجھے؟"

"جی معلوم نہیں کہاں جانا تھا۔"

"یعنی تو بے گھر ہے؟"

"جی' گھر تو ہے میرا۔"

"مجھے پہچانتی ہے؟"

"ہاں جی۔ تم شاعر ہو!"

"تو نے میرے گیت سنے؟"

"جی سنے۔"

"اچھے تھے؟"

"جی اچھے تھے۔"

"پسند آئے؟"

"اچھے جو تھے جی —— اچھی چیزیں ہی پسند آتی ہیں۔"

"تو نے —— لیکن تو اندر کیوں نہیں آجاتی؟"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

سیماں سمٹی ہوئی اندر چلی آئی اور بے کواڑ کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ شاعر' جس کے سر کا سایہ اب سیماں کے چہرے پر پڑ رہا تھا' ایک طرف ہو گیا اور سیماں لجا گئی۔ گالوں پر چپٹے ہوئے بالوں کو الگ کیا۔ بھیگے ہوئے لباس کو گھما کر سینے پر چیتھڑوں کا ایک انبار سا لگا دیا اور باہر بجلی چمکی۔ بادل گرجا اور کھنڈر کی بنیادوں میں ڈھول بج اٹھے۔

"سیماں!" شاعر بولا۔ "سیماں بی! مجھے یہ تو بتا کہ تو یہاں آئی کیسے؟"

"سچ سچ کہوں؟" وہ اپنے پاؤں کا انگوٹھا گھورتی ہوئی بولی۔

"ہاں ہاں۔"

"برا تو نہیں مانو گے؟"

"نہیں نہیں۔"

"تم سے ملنے آئی تھی۔"

"مجھ سے؟"

"اور کس سے؟"

"کیوں؟"

"تم نے جی! آج بڑے پیارے گیت سنائے۔ تم نے جو دوہے گائے' وہ اب تک میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں۔ تم نے جو بیت الاپے انہیں میں کبھی نہ بھولوں گی۔ تم بہت بڑے آدمی ہو شاعر! تم بہت اونچے ہو! میں چکی پیسنے والی ہوں' چیتھڑے پہنتی ہوں' میرے گھر کے آنگن میں جو درخت ہے' اس کی شاخوں میں پتے ہی نہیں آتے۔ مجھے عرصے سے جوتا پہننا بھی نصیب نہیں ہوا۔ پر شاعر! تم مجھے اچھے لگے۔ اس لیے تم سے ملنے چلی آئی۔ مجھے بس اتنا بتا دو! کہ تم یہ دوہے کیسے کہتے ہو؟"

شاعر جو کھنڈر کے وسط میں بے حس و حرکت کھڑا تھا' فرش پر بیٹھ گیا' اور بولا۔ "تو نے بہت سی باتیں ایک سانس میں کہہ دیں' اور پھر تیرا یہ سوال

www.iqbalkalmati.blogspot.com

بڑا عجیب ہے کہ میں دوہے کیسے کہتا ہوں؟ سن! جب میں دوہے کہنے لگتا ہوں تو میرے دل کی خاموشیوں میں پہلے ایک ساز بجتا ہے' بڑا میٹھا اور پیارا ساز۔ ایسے ساز اس دنیا میں نہیں بجا کرتے۔ میری رگوں میں ساز کے تاروں کی من موہنی جھنجھناہٹیں تیرنے لگتی ہیں۔ میں اس زمین پر سے اوپر اٹھ جاتا ہوں' میں نے کئی بار زمین سے ابھر کر تاروں کو چھو لیا ہے اور پھر جب میں تاروں کی اجالوں بھری دنیا میں پہنچتا ہوں تو بے شمار خوبصورت پرچھائیاں میرے اردگرد آکر ناچتی ہیں۔ سنا؟ دیر تک ناچتی رہتی ہے۔ اِدھر میرے دل میں ساز کی جھنکار' اُدھر پرچھائیوں کا رقص' اور ستاروں کی تھرتھراہٹیں' دوہا خود بخود بننے لگتا ہے اور جب ساز کی آواز بند ہو جاتی ہے تو رقص بھی تھم جاتا ہے' تارے بھی دھندلا جاتے ہیں اور میں ایک نیا دوہا الاپنے لگتا ہوں۔"

"پر شاعر!" مبہوت سیماں بولی۔ "میں تاروں تک کیسے ابھروں؟"

"تو نے کبھی کوشش بھی کی ہے ابھرنے کی؟"

"جی کی تو ہے۔ اور ایک گیت بھی شروع کیا ہے۔"

"سنا تو!"

"ختم کر لوں تو سناؤں گی۔"

"کیسا ہے؟"

"یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا' لیکن اگر میں تمہیں اس وقت کہوں کہ کوئی دوہا بناؤ' تو بنا سکو گے؟"

"ہاں!"

"لیکن تم کھنڈر کے فرش پر بیٹھے ہو اور گیت بنانے کے لیے تمہیں تاروں کی طرف جانا پڑتا ہے اور پھر آج تم ابھر بھی تو نہ سکو گے۔ ابر چھا رہا ہے' تاروں کا نشان تک نہیں ملتا۔"

"میں اس وقت تاروں کے اجالوں بھرے دیس میں ہوں۔"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

"کیسے؟"

"تو نہیں سمجھ سکے گی۔"

"اچھا تو کوئی دوہا کہو۔"

اور شاعر کی نقرئی آواز نے بارش کی سنسناہٹیں اپنے اندر جذب کر لیں:

"سبحان اللہ! یہ آنکھیں اس قدر خوب صورت ہیں' جیسے
پو پھٹنے سے قبل آسمان پر تارے!
یا وہ سیاہ بھونرے جو باغ میں والہانہ اڑتے پھرتے ہیں!
یا دو لس لس کرتے ہوئے چراغ جو دریا کے اس پار
ٹمٹما رہے ہوں
یا میری تقدیر کے دو حرف جو ہر لحہ اپنی ہار مان رہے
ہوں۔"

اور جب دوہا ختم ہو چکا تو شاعر سیماں کے قریب ہو کر بولا۔ "یہ دوہا میں نے تیری آنکھوں پر کہا ہے۔"

"جی؟" ——— اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

"تیری آنکھیں مجھے اس طوفان زدہ رات میں تاروں کے دیس تک لے گئیں۔"

"جی؟ سیماں باہر جانے لگی۔

شاعر نے اپنی جیب سے ایک سوکھا ہوا زرد پھول نکال کر سونگھا۔

"ارے!" سیماں گھبرا گئی اور کھنڈر سے نکل کر ٹیلے کی طرف بھاگی اور جب پلٹ کر کھنڈر کی طرف دیکھا تو دیا بجھ چکا تھا' بوندیاں تھم چکی تھیں اور پوربی افق پر دو تارے بھی ٹمٹما رہے تھے ——— اس نے اپنی آنکھیں ملیں اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گاؤں میں آ گئی۔ اور جب اپنی کوٹھڑی میں قدم دھرا

تو فرش کیچڑ بن چکا تھا لیکن اس کے دماغ میں الجھے ہوئے مختلف خیالات گھوم رہے تھے ——— میری آنکھیں ——— تاروں کا دیس ——— سرسوں کا پھول ——— راز بھرا شاعر ——— اور ——— اور یہ سب کیا ہے؟ اس کے سامنے دھوئیں کا ایک گول مول سا غبارہ گھومنے لگا اور جب گھر پہنچی تو اس نے نانا نانا نن نن نانا کی دھن پر ایک اور بند کہا:

تو تاروں میں بسنے والا' عرش پہ رہنے والا
میرے سر پر پھٹا پرانا میلا سا دوشالا
سوچ کے پاؤں دھرنا
بانکے
مجھے سے پیت نہ کرنا

شاعر نے اس کے بعد چراگاہ میں بے شمار لوگوں کے درمیان لاتعداد گیت گائے اور سیماں لڑکیوں میں چھپ چھپ کر انہیں سنتی رہی اور جب گھر آتی تو آئینے کے ایک میلے سے ٹکڑے میں اپنا عکس دیکھتی رہتی اور اسے یقین ہو جاتا کہ شاعر نے سب گیت اسی کے متعلق کہے ہیں۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن ستاروں کی طرح ہیں' اس کے بال بالکل گھٹاؤں ایسے ہیں' اس کے ہونٹ بالکل نو دمیدہ پنکھڑیاں ہیں' اس کی چال میں مستی اور آواز میں ترنم ہے اور شاعر ہر گیت ہر دوہے میں یہی باتیں دہراتا ہے۔ "اچھا شاعر ——— پیارا موسیقار!"

لیکن وہ اس کھنڈر کی طرف پھر کبھی نہ گئی' کیونکہ اسے خوف تھا کہ شاعر اس کے بالوں کی تعریف میں کوئی دوہا کہہ دے گا اور وہ شرما جائے گی۔

اس کے سینے میں امنگوں کا ایک طوفان بپا تھا۔ کہاں چاند کہاں خاک کا حقیر ذرہ! بڑی انوکھی بات ہے لیکن سیماں کو یقین تھا' کہ شاعر اسے بھولے گا نہیں۔ وہ اس کے پاس آئے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے ہاں رہے گا۔ وہ

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

دونوں رات کی خاموشیوں میں سنسان ٹیلوں سے دور کھنڈروں میں چھپ کر ستاروں کے اجالوں بھرے دیس میں اڑ جائیں گے' گیت بنائیں گے' دوہے گائیں گے' نہ یہ چکی کی منحوس کھسر پھسر ہوگی۔ نہ یہ ڈراؤنا درخت' نہ یہ کم بخت ٹڈا ——— اور اگر یہ بات نہیں تو شاعر نے سرسوں کا پھول اپنی جیب میں کیوں محفوظ رکھا؟ سیماں کی آنکھوں پر اس نے دوہا کیوں کہا! یہ سب باتیں سوچتی رہی۔ وہ اس حد تک سوچتی کہ اکثر شاعر کا خیالی پیکر اس کے قریب آکر گنگناتا:

سبحان اللہ! یہ آنکھیں اس قدر خوبصورت ہیں جیسے..... اس نے ان دنوں میں گیت ختم کرنے کی کوشش کی اور ایک بند اور بھی بنا لیا:

ساون رت ہے تیری سہیلی' دھوپ مری بھنیلی
ساون کی اندھیاری رت میں دھوپ کا اللہ بیلی
مجھ پر دوش نہ دھرنا
بانکے
مجھ سے پیت نہ کرنا

لیکن اس نے محسوس کیا کہ گیت ابھی ادھورا ہے' اور پھر ایک صبح کو جب وہ اٹھی تو یہ ارادہ کر کے کہ آج رات وہ پھر کھنڈر کا چکر لگائے گی' دیکھے تو سہی کہ اس کے خوابوں کا راجہ کس رنگ میں ہے' اس نے لاکھ سر پٹخا کہ گیت مکمل کر لے' تاکہ رات کو شاعر کے پیش کر سکے' لیکن ناکام رہی اور شام کو جب وہ ایک گھر میں چکی پیس رہی تھی' تو اسے خیال آیا کہ شاید یہ گیت شاعر ہی مکمل کر دے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اچھل پڑی اور زیر لب گیت گنگنانا چاہتی تھی کہ گاؤں کی ایک بوڑھی کھوسٹ بھٹیارن لاٹھی ٹیکتی آئی اور اس کے کانوں کے قریب اپنے ٹھنڈے مرجھائے ہوئے ہونٹ لا کر بولی۔ "سیماں بیٹی!"

سیماں نے چونک کر چکی روک لی۔ "کہو خالہ!"

"چکی گھمائے جاؤ' سیما بیٹی! ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ "بڑے راز کی بات ہے۔"

چکی کی گھمر گھمر میں سیماں نے پوچھا۔ "تو اب کہو!"

"وہ جو شاعر آیا تھا نہ ہمارے گاؤں میں۔ وہ آج چلا گیا ہے۔"

"چلا گیا!" سیماں نے چکی روک لی۔

"چکی گھمائے جاؤ بٹیا! ——— وہ چلا گیا ہے' وہ کھنڈر میں تمہارا منتظر رہا' مگر شاید تمہاری ہمت نہ پڑی۔ تم نہ جا سکیں۔ آج اس نے مجھے بلا کر دس روپوؤں کا نوٹ دیا اور کہا کہ یہ سیماں کو دے دینا اور کہنا کہ وہ یہاں سے لاری پر سوار ہو کر اسٹیشن پہنچے اور وہاں گاڑی پر سوار ہو کر اس کے ہاں آجائے۔ اگر تم کل صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤ تو وہ پرسوں صبح تمہیں اسٹیشن پر ملے گا۔ وہ کہتا تھا کہ تم اس کے گیتوں کی ملکہ ہو۔ اور ساتھ ہی یہ کہتا تھا کہ دیر نہ کرنا ——— اور پھر یہ پھول بھی دیا تھا اس نے نشانی کے طور پر!"

سیماں نے جھپٹ کر بڑھیا سے پھول چھین کر مسل ڈالا۔ دس روپوؤں کا نوٹ اس کی مردہ مٹھی میں گھسیڑ کر بولی۔ "تو اب جا خالہ بی! ورنہ چکی کے پاٹ سے سر پھوڑ دوں گی تیرا۔ کاٹ کھاؤں گی تجھے!"

بڑھیا لاٹھی ٹیکتی چلی گئی اور سیماں نے اس زور سے چکی گھمائی کہ آٹا آندھی کی طرح اٹھ کر سارے کمرے میں پھیل گیا۔ ایک بار مٹھی اکھڑ گئی۔ سیماں پیچھے گر گئی' چکی کا پاٹ کھسک کر آٹے میں دھنس گیا اور سارے گھر والے اکٹھے ہو کر اس پر برس پڑے!

اور پھر اس رات جب وہ کھنڈر کے قریب پہنچی تو گیت مکمل کر لیا اور ٹیلے پر بیٹھ کر آخری بند گنگناتی رہی:

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

میری نیّا طوفانوں میں پھنس کر غوطے کھائے
تو ساحل پر بیٹھا مجھ کو اپنے پاس بلائے

مشکل پار اترنا
بانکے
مجھ سے پریت نہ کرنا!

لیکن اس نے محسوس کیا کہ گیت ابھی تک ادھورا ہے۔

* * *

حیوان اور انسان

زہرہ اور میں دالان کے ایک کونے میں چکنی مٹی کے زیور بنا رہے تھے اور آپاجان ایک بڑے سے ٹوکرے کو ایک کنارے پر کھڑا کیے اور اس کے اوپر کے سرے پر ایک لمبی سی رسی باندھے مکان کے اندر کوارٹر کی اوٹ میں بیٹھی تھیں۔ ٹوکرے کے نیچے دانے بکھرے پڑے تھے۔ آپاجان شاید چڑیا کا شکار کھیل رہی تھیں۔

میں نے مٹی کا ایک ہار تیار کیا اور اسے سن کے دھاگے میں پرو کر زہرہ کے گلے میں ڈال دیا۔ زہرہ کے گلابی رخساروں سے جیسے خون پھوٹ نکلے گا۔ بولی۔ "بہت گندہ ہار ہے۔"

میں نے کہا۔ "میری انگلیوں کی پوروں میں آبلے ابھرے آرہے ہیں اور تم.....!"

وہ ہنس دی ——— اسے ہار پسند تھا اور میری تقریر بے کار تھی!

زہرہ نے مٹی کی ایک انگشتری تیار کی جس میں نگینے کی جگہ سبز کانچ کی چوڑی کا ایک ٹکڑا جڑ دیا' اور میری انگلی تھام کر بولی۔ "یہ لو اپنے ہار کی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

قیمت!"

میں نے کہا۔ "بہت گندی انگشتری ہے۔"

وہ بولی۔ "انگشتری بناتے بناتے میرے ہاتھوں میں....."

میں زور سے ہنس دیا۔ اس نے انگشتری سرکائی۔ انگلی کے پہلے جوڑ پر پہنچ کر اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک نیچے گدلے پانی میں جا گرا اور دوسرا زہرہ ہی کے ہاتھ میں رہ گیا۔ گھبرا کر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ "خپ!" کی آواز آئی۔

آپا نے چڑیا پکڑ لی تھی!

ہم دونوں بھاگے بھاگے ٹوکرے کے پاس پہنچے۔ آپا کبھی ٹوکرے کے اُس طرف اکڑوں بیٹھ جاتیں۔ کبھی اس طرف جھک کر زمین سے لگ جاتیں۔ ہاتھ ملتے ہوئے اور کسی درز سے اندر جھانکتے ہوئے کہتیں۔ "اب کیسے نکالا جائے اسے! ہاتھ کون ڈالے اندر؟ اڑ نہ جائے پھر سے!"

میں نے کہا۔ "زہرہ! ذرا ہاتھ ڈالو ٹوکرے کے اندر۔ میں ذرا...."

بات کاٹ کر بولی۔ "اوہو۔ ہم کیوں دوسرے کا پاپ اپنے سر لیں۔ اور پھر مایوس چڑیا ہاتھ میں ٹھونگا لگا بیٹھی تو پھروں رونا پڑے گا!"

آپا بولیں "بزدل"

زہرہ نے میری طرف اس بے گناہ کی طرح دیکھا جس پر قتل کا الزام بغیر کسی ثبوت کے تھوپا جا رہا ہو۔ تن کر بولی۔ "میں بزدل ہوں اور تم؟ تم دکن والی چاند بی بی ہو! ہے نا؟"

معاملہ بڑھ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ڈال کر چڑیا پکڑ لی۔ زہرہ چیخ اٹھی۔

"اے ہے یہ تو ہمارا چڑا ہے! ہمارے باورچی خانے میں رہتا ہے۔ بڑا بھلا مانس ہے۔ کھلے برتنوں کے سوا اور کہیں چونچ نہ مارے گا۔ برسوں سے ہمارے یہاں رہتا ہے۔ دیکھو تو دھوآں کھاتے کھاتے دھندلا سا گیا ہے بیچارہ! چھوڑ دو اسے۔ ہماری چڑیا رانڈ ہو جائے گی۔"

آپا جان بولیں۔ "ارادہ تھا کہ گڑیوں کے بیاہ میں اس کے گوشت سے دعوت ولیمہ تیار کی جائے مگر تمہارے کہے پر اسے چھوڑ دیتی ہوں ——— پر یہ کیا یاد کرے گا کہ کسی کے گھر سے چوری چھپے دانے چگنا اور کسی بچی کی خوب صورت گڑیا کی آنکھ کو باجرے کا دانہ سمجھ کر اس میں چونچ چبھو دینا کتنا بڑا جرم ہے!"

چڑا میری انگلیوں میں جکڑا ہوا یوں آنکھیں گھما رہا تھا جیسے سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ اسے میرے ہاتھ سے چھین کر آپا اندر بھاگ گئیں اور دروازہ بند کر دیا۔ ہم نے بند مٹھیوں سے کواڑ کوٹ دیئے مگر نہ جانے اندر چڑے پر کیا بیت رہی تھی کہ اچانک اندر سے دردناک "چیں چاں چوں" کی مسلسل آوازیں آنے لگیں اور کچھ دیر کے بعد آپا کا ایک بلند قہقہہ! ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔

"آپا ———!" میں نے چیخ ماری۔

"عابدہ!" زہرہ پکاری۔

"کھولتی ہوں، کھولتی ہوں" ——— اندر سے آواز آئی۔ دروازہ کھلا۔ چڑے میاں کے سر پر سرخ ریشم کا ایک پھول سج رہا تھا اور اس کی ننھی سی کھوپڑی پر خون کے دو قطرے چمک رہے تھے۔

زہرہ غم و غصہ سے بے تاب ہو کر بولی۔ "کیا تم سوئی سے ———؟"

اور اچانک چڑا پھر سے اڑا، بیری پر سے ہوتا، شبنمی پر سے گزرتا مسجد کے میناروں کی طرف غائب ہو گیا۔

اس دن سے چڑے نے زہرہ کے گھر سے اپنا آشیانہ اٹھا لیا اور شاید کہیں ویرانے میں جا بسا۔ آدم کی ندیدی اولاد سے ڈر کر اس نے بن باس کی ٹھان لی۔ ہمیں وہ بہت عرصے تک دکھائی نہ دیا۔

اور آخر چار مہینے بعد میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی چڑا ہمارے

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

باورچی خانے کی چھت میں گھونسلا بنانے کی کوشش میں ہے۔ رنگ نکھرا ہوا' لیکن سر کا پھول میلا اور نچا کھچا۔ میں بھاگ کر زہرہ کو بلا لایا۔ پڑوس میں رہتی تھی۔

زہرہ کے تو جیسے پر لگ گئے۔ باورچی خانے میں آئی تو چڑا ڈر کر باہر اڑ گیا۔ زہرہ نے تالی پیٹ کر کہا۔ "چڑیا کو لینے گیا ہے!"

میں بولا۔ "اس بوڑھے کے ساتھ کون آئے گی! کوئی بوڑھی کھوسٹ گھسی ہوئی چونچ والی نچی ہوئی دم والی' مڑے ہوئے پنجوں والی' سینکڑوں چڑیوں کی دادی اماں کہیں سے اٹھا لائے گا۔"

زہرہ ہنسنے لگی۔ "کلغی والے کو اپنی کلغی کا پاس تو ضرور ہو گا نا۔"

اور واقعی غروب آفتاب سے چند لمحے پہلے وہ ایک چڑیا ہمراہ لے آیا' دودھ کی طرح سفید سینہ' شبنم کے قطروں کی سی آنکھیں' سونے میں ڈھلے ہوئے پنجے' ریشم سے بنے ہوئے پروں چوں چوں کرتی تھی جیسے دور کوئی جلترنگ بجا رہا ہو۔ کچھ دیر باہر منڈیر پر بیٹھے رہے' پھر اندر آ گئے اور چھت میں شہتیروں کے آس پاس یوں سما گئے جیسے مستری نے انہی کے لیے یہ جگہ چھوڑ دی تھی۔

دو سال وہ ہمارے یہاں رہے۔ گرمیوں میں باہر روشن دانوں میں آ جاتے' سردیوں میں اندر شہتیروں کے آس پاس گھس جاتے۔ ہم سے یوں ہل گئے کہ ایک بار زہرہ نے عابدہ کے کہنے پر چڑے کو پکڑ لیا اور اس کے سر کا پھول تازہ کرنا چاہا مگر وہ دردناک انداز میں چیخ اٹھا۔ اوپر سے چڑیا جس کا رنگ باورچی خانے کے دھوئیں سے میلا پڑ گیا تھا۔ چیختی ہوئی اڑی اور منڈیر پر بیٹھ کر ہمیں گھورنے لگی۔ ہم نے چڑے کو چھوڑا' تو وہ سیدھا اپنی بیگم کے پاس جا بیٹھا اور اس نے پھدک پھدک کر یوں رازدارانہ انداز میں چیخ کی جیسے کہہ رہا ہے "پگلی! تو کیوں چیخ اٹھی' ہم دو سالوں سے ان کا نمک کھا رہے ہیں' یہ ہمیں گزند

نہیں پہنچائیں گے۔ پگلی!" ——— "میں سمجھی تمہیں مروڑ ڈالیں گے۔ اللہ قسم میں ڈر گئی تھی!" ——— "اونہہ! پگلی!"

میں باہر سیر پر جاتا اور وہ چڑا کہیں نظر پڑتا تو میں پکار اٹھتا۔ "وہ رہا۔ وہ رہا ہمارا چڑا!" ——— میرے ساتھی زور زور سے ہنستے ہوئے کہتے۔ "کیا دماغ چل گیا ہے تمہارا! سارے شہر میں تمہارے چڑے کے تذکرے ہیں۔ ایک تو بے چارے کا سر چھید ڈالا' اوپر سے اتنا بدنام کیا کہ بچے اسے آنگنوں میں چین سے پیٹ تک نہیں بھرنے دیتے۔ اگر کسی شریر چھوکرے کے ہتھے چڑھ گیا تو کلغی کھینچ کھانچ کر چھچھوندر بنا دے گا تمہارے چڑے کو!"

اور میں پھڑک کر کہتا۔ "کوئی چھیڑے تو میرے چڑے کو۔ قسم خدا کی الٹا لٹکا دوں گا سٹیشن کے پل سے!"

زہرہ کی بھی یہی حالت تھی۔ سہیلیوں میں بیٹھی کشیدہ کاڑھ رہی ہوتی' کہ پکار کر کہتی۔ "وہ رہا ہمارا چڑا!"

سہیلیاں ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر کہتیں۔ "اے ہے! رہنے بھی دے۔ ہمارا چڑا۔ ہمارا چڑا! کوئی سن لے تو کہے زہرہ چڑے سے بیاہ رچانے والی ہے!"

اور زہرہ کڑک کر کہتی۔ "منہ سنبھال کر بات کرو بھئی! ——— کوئی دکھائے تو ایسا پیارا چڑا۔"

سہیلیاں زور زور سے ہنستیں۔ فضا میں نقرئی قہقہے پھلجھڑیوں کی طرح بکھر جاتے' اور چڑا مبہوت ہو کر وہاں سے اڑ جاتا۔

ایک روز چڑا اور چڑیا برآمدے کے باہر چوبی کٹہرے پر بیٹھے تھے' اچانک چڑیا پھدکتی ہوئی آئی اور چڑے کے سر کے پھول میں چونچ پھیرنے لگی۔ چڑا آنکھیں بند کیے ہوئے دم بخود بیٹھا رہا۔ جب یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا تو میں تیزی سے اٹھا کہ زہرہ کو بلا لاؤں اور اسے یہ اچھوتا منظر دکھاؤں کہ اچانک عابدہ بولی۔ "بھیا امی بلا رہی ہیں!"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

میں پلٹ کر اندر کمرے میں گیا۔ امی نے مجھے اپنے قریب بٹھا کر کہا:

"کدھر چلے تھے؟"

"زہرہ کو بلانے۔"

"کیوں؟"

"چڑے چڑیا کا کھیل دکھانے۔"

"کیوں؟"

"یونہی!"

"تم اب دودھ پیتے بچے نہیں بیٹا! اللہ رکھے گبرو ہو' سوچ سمجھ سکتے ہو' یہ بھی جانتے ہو کہ زہرہ کے ماں باپ سے ہم تمہارے متعلق بات چیت کر رہے ہیں' اب تم اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلنا چھوڑ دو' کل اس کی ماں بھی یہی کہہ رہی تھی' تمہارا ادھر جانا ٹھیک نہیں' لوگ ہنستے ہیں!"

میں سر جھکائے باہر آیا تو عابدہ دوپٹے میں ناک چھپائے دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھا تو بولی۔ "کیوں بھائی جان! کیا حال ہے؟"

اندر سے امی پکاریں۔ "عابدہ! تو بھی اپنے بھائی کی طرح بچہ ہی ہے۔ چپ رہ۔"

اور میں نے عابدہ سے پوچھا۔ "کیوں آپا جان! کیا حال ہے؟"

——— ہم دونوں ہنسنے لگے۔ مگر میری ہنسی کھوکھلی تھی' جیسے خالی پیٹ بجتا ہے۔

میں نے بہت دنوں تک زہرہ کو نہ دیکھا۔ اور ایک رات جب چاند افق کو مس کر رہا تھا' دکھی دکھی چاندنی فرطِ غم سے سمٹی جا رہی تھی' میں نے زہرہ کو گلی کے نکڑ پر مڑتے دیکھا لپک کر اسکے پاس پہنچا۔ اس کے بال جو دھوئے جانے کے بعد گوندھے نہیں گئے تھے' اسکے نصف چہرے کو چھپائے ہوئے تھے اور اس کے ہونٹوں کے کنارے پل پل بھر میں کپکپا اٹھتے تھے۔

میں نے اسے ساتھ ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو وہ فرماں بردار شاگرد کی طرح میرے پیچھے پیچھے ہولی۔ شدت کے جاڑے میں بھی وہ پسینے میں شرابور تھی۔ چاند کی غمگین روشنی جو اس کے چہرے پر پڑی تو میں سمجھا کہ بابل اور نینوا کی کوئی شاہزادی حاجیوں کی نظروں سے کترا کر کسی چور دروازے سے نکل آئی ہے اور اپنے محبوب کو ملنے چلی ہے۔

ہم چھت پر ٹھٹھرتے ہوئے جا بیٹھے میں نے کہا۔ "زہرہ! نہ یہ شکریہ ادا کرنے کا موقع ہے نہ چڑے چڑیا کی باتیں کرنے کا۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ دن بیت گئے' جن ہم مٹی کے زیور بناتے تھے' چڑیوں کے پیچھے بھاگتے تھے' رنگ رنگ کی تتلیاں پکڑتے تھے' نہ کوئی روکنے ٹوکنے والا' نہ کوئی پوچھ گچھ کرنے والا۔ اور اب یہ حالت ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ شہر کے ایک اور صاحب بھی اپنے بیٹے کے لیے تمہارے ماں باپ سے تمہارے متعلق بات چیت کر رہے ہیں۔ زہرہ کیا تم برداشت کر لو گی کہ ہم الگ الگ پھینک دیئے جائیں؟ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہے ہیں' اس لیے میں زہرہ کے حسن کا اتنا پجاری نہیں جتنا زہرہ کا' وہی زہرہ جس نے میری انگلی میں——— مدتیں گزاری——— مٹی کی ایک انگوٹھی ڈالی تھی۔"

"اور وہ ٹوٹ گئی تھی!" زہرہ پہلی بار بولی۔ جیسے کسی نادان بچے نے بے جانے بوجھے سارنگی کے کسی تنتے ہوئے تار کو چھیڑ دیا ہو۔ میں گھبرا گیا۔

زہرہ پھر بولی۔ "تم چپ ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اس قسم کی قربانیاں کرتے وقت مرد سے زیادہ عورت کی روح پر جرکے لگتے ہیں۔ وہ پنجرے میں بند ایک چڑیا ہے' نکل نہیں سکتی' اور کسی رخنے سے نکلے گی تو اپنے پر زخمی کر لے گی' اور پھر اڑنے کے ناقابل ہو جائے گی' رینگے گی اور تم جانتے ہو صرف رینگنے سے چڑیاں آشیانوں میں نہیں پہنچ سکتیں۔"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

"پر پھر بڑھ آتے ہیں۔" میں نے کہا۔

"پروں کے بڑھنے کا انتظار کون کرے!" زہرہ نے اپنا خوب صورت سر ادھر ادھر ہلاتے ہوئے کہا۔ "کوئی نہیں کرتا"

کنول کے پھول کے سے نرم اور بھیگے بھیگے ہاتھ کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا "یہ چڑا اور چڑیا جو ہمارے باورچی خانے میں رہتے ہیں' حادثات زمانہ کا مقابلہ کرتے ہیں' مصیبتیں جھیلتے ہیں' دکھ بھوگتے ہیں مگر جدا نہیں ہوتے۔ روزانہ کتنی شوخ اور چنچل چڑیاں ہمارے کلغی والے چڑے کے اردگرد منڈلاتی ہوں گی' مگر اسے اپنی چڑیا کے پہلو کے سوا اور کہیں قرار نصیب نہیں۔ یہ حیوان ہے' ہم انسان ہیں۔ مگر ہم اتنے بے بس کیوں ہیں!"

زہرہ شاید چڑے چڑیا کی باتیں سن کر متاثر ہو گئی تھی' آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی۔ "اگر انسان حیوانوں کی تقلید کر سکتے تو فرشتے بن جاتے۔"

چاند ڈوب گیا تھا۔ رات حیران سی رہ گئی تھی۔ شہر سے دور بڑی سڑک پر کوئی شخص ٹارچ کو روشن کیے جا رہا تھا۔ زہرہ اٹھی اور جاتے ہوئے بولی۔ "اپنے کہے کا پاس رہے۔"

میں سمجھا اس نے میرے کلیجے کو چٹکیوں سے نوچ لیا ہے' میرا جی الٹنے لگا۔ شک و شبہ میں لپٹی ہوئی محبت کا انجام معلوم!

چڑے چڑیا کی سنیے۔ ایک روز چڑیا صبح کو باہر نکلی تو گھبرائی ہوئی سی۔ آٹھ دس گز اڑ کر فرش پر بیٹھ گئی' آنکھیں میچ لیں' گردن جھکا لی' لمحہ بھر بعد ہشیار ہو کر اڑی' منڈیر پر جا بیٹھی آنکھیں بند کر کے اونگھنے سی لگی۔ چڑا لمبے لمبے چکر کاٹ کر اس کے پاس آتا اور چیختا ہوا اوپر فضا میں قلابازیاں سی کھاتا پھر نیچے آجاتا۔ بہت دیر تک چڑیا کی یہی حالت رہی۔ کبھی فرش پر ہے تو کبھی منڈیر پر' کبھی اونگھ رہی ہے تو کبھی پنجے گھسیٹ کر چل رہی ہے۔ میں اور آپا بے سدھ بیٹھے دیکھتے رہے۔ ہمارے دل ہوا ہو گئے' آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ چڑیا ایک

www.iqbalkalmati.blogspot.com

دو بار جھولی' لڑکھڑائی' ایک طرف لڑھک کر پنجے سمیٹے اور ڈھیلے چھوڑ دیئے' چونچ کھولی اور وہ کھلی کی کھلی رہ گئی ——— چڑیا ختم ہو چکی تھی!

چڑا بے چارہ اس قدر چیخا کہ امی تنگ آگئیں۔ دست پناہ اٹھا کر پھینکنا چاہا' تو میں نے کہا۔ "امی! دیکھیے تو۔ آج بے چاری چڑیا مر گئی ہے ——— اسے چیخنے دیجئے۔ کل کلاں یہ بھی چل دے گا' دو اڑھائی سال اس کے ساتھ گزار کر اب اکیلے کیسے جیے گا یہ بد قسمت ——— بدنصیب!"

عابدہ تو ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔

زہرہ ان دنوں بیمار تھی۔ میں اس خیال سے بے حد پریشان رہا کہ اسے کیسے اطلاع دوں۔ خوش قسمتی سے اس روز اس کے ابا اسے ہمارے ہاں اٹھوا لائے کہ کھلا صحن ہے' تازہ ہوا کھائے گی بے چاری۔ وہاں اپنے گھر میں تو اس کا دم گھٹا جاتا تھا۔ امی اور ابا جان کے لیے یہ بالکل معمولی بات تھی۔ وہ زہرا کے لیے گھر کا گھر خالی کر سکتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ زہرہ ان کی بہو بنے گی۔ مجھے اس روز اوپر کے ایک کمرے میں رہنے کو کہہ دیا گیا۔

موقع پا کر ایک بار زہرہ کو دیکھا تو جیسے چاند گہن میں آگیا ہے' وہ رنگ کیا ہوا۔ وہ بال کدھر گئے' وہ بھری بھری بانہوں کے خطوط اور وہ مرمریں گردن کا تناؤ! ——— الٰہی! کیا انسان کو اتنا خوبصورت بنا کر اتنا ——— لیکن میں زہرہ کے حسن کا پجاری نہ تھا۔ میں صرف زہرہ کا پجاری تھا اور وہی زہرہ میرے سامنے موجود تھی۔

شام کے قریب جب سب عورتیں اپنے کام کاج میں لگ گئیں تو میں زہرہ کے پاس آیا اور اسے چڑیا کی موت کا قصہ سنایا۔

اس کے بے رونق ہونٹ کھل گئے' بڑی بڑی ویران آنکھیں بھیگ گئیں۔ کروٹ بدل کر بولی۔ "خدا خیر کرے!"

میں کچھ نہ سمجھا!

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

میں نے چڑیا کی قبر بنائی اور اس پر سبز رنگ کا غلاف بھی چڑھا دیا۔

چڑا بے چارہ متواتر دو دن تک منڈیر پر بیٹھا اونگھتا رہا' نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ آپا عابدہ اور میں اس کی حالت پر گھنٹوں افسوس کرتے اور جب کبھی زہرہ اس کی طرف دیکھتی تو بے چین سی کروٹ بدل کر کہتی "خدا خیر کرے!"

تیسرے دن وہ منڈیر سے اڑ کر شبنمی پر جا بیٹھا اور پھر گرتا پڑتا دوسری طرف اڑ گیا۔ چار روز کے بعد ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کلغی والا چڑا منڈیر پر بیٹھا چوں چوں کر رہا ہے اور اسکے پہلو میں ایک گوری چٹی بے آرام سی چڑیا پھدکتی پھر رہی ہے!

زہرہ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ عابدہ چہرے پر آنچل پھیلائے اندر بھاگ گئی۔ میں نے زہرہ کو اکیلا پا کر کہا۔ "زہرہ! کتنا بے وفا نکلا چڑا!"

بازو اٹھا کر آنکھوں پر رکھتے ہوئے بولی۔ "خدا خیر کرے۔"

میں کچھ نہ سمجھا!

زہرہ کی حالت بہت نازک ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی رنگت خوفناک حد تک سفید پڑ گئی تھی۔ زندگی جیسے اس کی حیران پتلیوں اور پژمردہ پپوٹوں میں سمٹ آئی تھی۔ اس کے سیپی کے سے سفید ناخن' اس کے اکاوکا بچے کھچے بال' اس کے مٹیالے دانت' پیشانی کی ابھری ہوئی ہڈی' دھنسی ہوئی آنکھیں ——— جیسے جنگل کا پھول جو آندھیوں کے گرد و غبار سے اٹا پڑا ہو۔

میرا جی دہل جاتا۔ میرے ذہن میں زہرہ کے وجود اور زہرہ کے حسن میں کبھی نہ ختم ہونے والا مباحثہ شروع ہو جاتا اور جب میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکتا تو گھبرا کر باہر گلیوں میں نکل جاتا اور اس تیزی سے چلتا کہ لوگ حیران رہ جاتے۔

ایک روز جب سب گھر والے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے'

www.iqbalkalmati.blogspot.com

زہرہ نے مجھے سوکھے ہوئے ہاتھ سے اپنی طرف بلایا اور جب میں اس کے پنجر پر جھک گیا تو وہ سرگوشی کرتی ہوئی بول۔ "چڑے چڑیا کی مثال پیش کرتے ہوئے شاید انجام تمہاری نظروں میں نہ تھا۔ چڑیا چل بسی' چڑا دوسری چڑیا لے آیا۔ یہ پرانا قانون ہے۔ کون کسی مرنے والے کے لیے اپنا جی ہلکان کرتا پھرے۔ تم میری حالت دیکھ کر روتے ہو میں تمہیں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہوں۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ چڑے کی طرح دو ایک بار منڈیر پر اونگھو اور پھر ———"

میرے گلے میں گرہ سی پڑ گئی' اٹھ کر باہر جانے لگا تو وہ بولی۔ "کہاں چلے؟ پوری بات تو سن لی ہوتی۔"

میں نے پلٹ کر پوچھا۔ "کہو!"

"کچھ نہیں" وہ بولی۔ "تم سب سمجھتے ہو۔"

اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور میرے سر میں نکیلا کنکر سا بجنے لگا۔

دوسرے روز زہرہ کی حالت بے حد خطرناک ہو گئی۔ اس کے والدین اسے اپنے گھر لے گئے کہ وہ اپنے بزرگوں کی جگہ پر دم توڑے۔ مجھے اس روز ابا نے دو مہینوں کے لیے چچا جان کے ہاں لاہور بھیج دیا۔ کام کی نوعیت سوائے اس کے اور کوئی نہ تھی کہ چچا جان مجھے دیکھنا چاہتے تھے۔

لاہور پہنچا تو چچا جان کی بڑی لڑکی نجمہ ہر وقت میرے سامنے رہنے لگی۔ اس پر مستزاد یہ کہ میرے اور اس کے کمرے میں صرف ایک دروازہ حائل تھا' جس میں لکڑی تھوڑی تھی اور صاف شفاف شیشے زیادہ۔ دروازے پر پردہ لٹکانے کا تکلف بھی غیر ضروری سمجھا گیا۔

جب صوفے پر لیٹے لیٹے میری نظریں نجمہ کے کمرے میں پڑتیں تو وہ مجھے ٹک ٹک گھور رہی ہوتی۔ دو تین روز تو پلکیں جھپکا کر ایک طرف مڑ جانے میں گزر گئے۔ مگر آخر کہاں تک!

نجمہ اور زہرہ کے ہیولے آپس میں ٹکرائے' دھوئیں کا ایک بونا سا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

اٹھا اور میرے حواس پر چھا گیا۔ میں نے سوچا' زہرہ تو میرے چلے آنے کے دوسرے روز ہی دم توڑ چکی ہوگی۔ زندگی زندہ رہنے کے لیے ہے' وقت اچھا گزر گیا' اب کون محبت کی لاش اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھرے!

نجمہ کا جدید حسن زہرہ کے قدیم حسن پر چھا گیا اور اسی لیے ایک روز ہمارے کمروں کے درمیان سے دروازے کا پردہ بھی اٹھ گیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جونہی زہرہ کے مرض نے طول پکڑا' ابا جان نے ادھر بات چیت کی اور چچا جان نے انہیں لکھا کہ جب تک نجمہ مجھے دیکھ نہ لے وہ نہیں مانتی ——اور اب نجمہ نے مجھے دیکھ اور سمجھ لیا تھا!

میں واپس گھر آیا تو معلوم ہوا کہ زہرہ میرے جانے کے بعد اچانک اچھی ہونے لگی اور اب بھلی چنگی ہے۔ گھر کے کام کاج اب وہی کرتی ہے۔ کل پڑوس میں ہنس رہی تھی۔

میں لڑکھرا گیا' پلنگ پر گرا تو کانوں میں کوئی پھنکارنے لگا۔

"کلغی والے کو اپنی کلغی کا پاس تو ضرور ہو گا نا!"

"پروں کے بڑھنے کا انتظار کون کرے!"

"اپنے کیے کا پاس رہے!"

اور جب صبح کو مجھے امی نے نہایت محبت سے یہ خوش خبری سنائی' کہ عنقریب نجمہ سے تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں بے سوچے پکار اٹھا۔ "میں نجمہ سے سے شادی نہیں کروں گا' میری بیاہ زہرہ سے ہو گا۔"

دوسرے کمرے میں والد صاحب بیٹھے تھے' بھاگے آئے اور پکارے۔ "کیا کہا؟"

میں نے آنکھیں فرش پر گاڑ کر کہا۔ "میں زہرہ سے بیاہ کروں گا۔"

گھر بھر میں میری اس گستاخی کے چرچے ہونے لگے۔ میرے والدین خاموش اور حیرت زدہ ہو کر ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ رہے۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

میں شام کو اپنے مکان سے باہر اکیلا کھڑا تھا کہ ایک لڑکی میرے قریب آئی اور ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ "سنئے گا!"

میں اس کے قریب آگیا۔

بولی۔ "زہرہ کہہ رہی ہیں' تم اپنے ماں باپ کا دل برا نہ کرو اور نجمہ سے بیاہ کر لو اور مجھ سے ناامید ہو جاؤ' میں تم سے شادی کرنے پر کنوار پنے کو ترجیح دیتی ہوں۔"

وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے میں ایک سایہ سا فضا میں تیرتا ہوا آیا اور میرے کانوں میں پھنکارنے لگا۔ "مایوس چڑیا ہاتھ پر ٹھونگا لگا بیٹھی تو پروں روتا پڑے گا۔"

میں بے قابو ہو کر کوڑے کے ایک ڈھیر پر گر گیا اور کلغی والا چڑا اوپر منڈیر پر بیٹھ کر چرچر چوں چوں مجھ پر پھبتیاں کسنے لگا!

* * *

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

سونے کا ہار

برادری میں عمر بھر شرم کے مارے آنکھیں جھکائے رکھنا بہت بڑا عذاب ہے۔ احمد علی کو اس کا شدت سے احساس تھا اور اس لیے وہ دن رات اس فکر میں رہتا تھا کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو شادی کے وقت ایک ایسا ہار جہیز میں دے کہ شریکوں کی آنکھیں چندھیا جائیں اور ندامت سے گردنیں جھک جائیں۔ تین بیگھے زمین تھی اور اس کے بھی اکثر حصے ریتلے تھے۔ ساری عمر کوڑی کوڑی جمع کرتا رہا' تو کپڑے اور چاندی کے زیور خریدے۔ اب اسے سونے کے ہار کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ہار پر تقریباً اڑھائی تین سو روپے خرچ آتے تھے اور جب ہار کے متعلق سوچتے سوچتے اس کی نظر اپنی خیمہ پونجی پر جا پڑتی جس میں اب ایک پیسہ بھی باقی نہ تھا تو اس کے چہرے پر اس قدر پسینہ پھوٹ نکلتا کہ بیوی کو اس کی صحت کی فکر پڑ جاتی۔

محلے کی بیاہی ہوئی نوجوان لڑکیوں کے گلے میں سنہرے ہار دیکھ کر اس کا دل بے اختیار اچھل پڑتا۔ اس کی بیٹی ان سب لڑکیوں سے خوب صورت اور سلیقہ شعار تھی۔ وہ حساس بھی تھی۔ اگرچہ وہ حیا سے اکثر خاموش اور گھٹی گھٹی

سی رہتی تھی تاہم احمد علی کو خیال آتا تھا کہ بیٹی کے دل میں یہ آرزو یقیناً موجود ہوگی کہ اس کے سینے پر بھی سونے کا ایک بڑھیا ہار لش لش کرے

بیوی سے مشورہ کیا تو وہ بولی۔ "یہ خیال میرے دل میں بھی موجود تھا' پر تم سے کہتے ہوئے ڈرتی تھی کہ اتنی رقم کہاں سے آئے گی؟ بہتر تو یہ ہے کہ زمین بیچ ڈالو۔ ہم اب بوڑھے ہو چکے ہیں' بہت سی گزار دی' تھوڑی سی رہ گئی ہے' محنت مزدوری کر کے یہ بھی کاٹ لیں گے۔ بیٹی ابھی جوان ہے۔ اس نے جی بھر کے دنیا بھی نہیں دیکھی۔ اس کے گلے میں ہار نہ ہوا تو یہ سمجھو عمر بھر اسے سہیلیوں میں نکو بن کر رہنا پڑے گا۔ پڑوس کی نئی دلہن دیکھی ہے تم نے؟ مینڈک ایسی ناک اور چھاج ایسے کان' سیاہ رنگ جیسے توے کی کالکھ مل رکھی ہے اور پھر اس کی چھاتی پر بھی سونے کا آدھ گز لمبا ہار چمک رہا ہے۔ ہار ضرور خریدنا ورنہ ناک کٹ جائے گی۔ اولاد کے لیے فاقے کاٹنا بھی عبادت ہے۔"

احمد علی گھر سے نکل کر باہر چلا گیا۔ دیر تک ایک چٹان پر بیٹھ کر سوچتا رہا کہ جس زمین پر میں نے چالیس برس ہل چلایا' جس کے سہارے میں اب تک زندہ ہوں اور جس کے دم سے گاؤں والوں میں تھوڑی بہت ساکھ قائم ہے' وہ کسی غیر کے ہاتھ میں دے دوں اور خود بھوکے کتے کی طرح الگ بیٹھ کر آنکھیں جھپکاتا رہوں! اپنے پاؤں پر آپ ہی کلہاڑی مارنا اسی کو تو کہتے ہیں۔ لیکن خاندانی عزت بھی تو کوئی چیز ہے۔ ساٹھ سال کی عمر ہے' جانے کب یہاں سے چل دوں۔ بیٹا تو کوئی ہے نہیں کہ زمینیں سنبھالے۔ وارثوں کے کام آئیں گی' جو ابھی سے میری ذرا سی بیماری کو بھی مرض الموت سمجھنے لگتے ہیں۔ کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھاؤں' ایک نقصان میں ہزار فائدے چھپے ہوئے ہوں تو نقصان کو نقصان کہنا بددیانتی ہے۔ میں تو برباد ہو جاؤں گا' پر میری بیٹی تو سکھی رہے گی۔ اور اس کے سکھ کے مقابلہ میں میرا دکھ ہے ہی کیا چیز!

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

وہ وہاں سے اٹھا۔ شام ہو گئی تھی۔ کالے کالے پربتوں کے پیچھے سے چاند آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا اور چوٹیوں پر درختوں کے سائے جیسے آسمان سے معلق ہو کر رہ گئے تھے۔

احمد علی گھر واپس چلا آیا۔ بیوی دیئے کی روشنی میں بیٹھی چرخہ کات رہی تھی۔ کہنے لگی۔ "تم سوچ کیا رہے ہو۔ خیر تو ہے؟"

"مجھے تو ہار کی الجھن نے بیمار کر دیا ہے!"

"زمینیں بیچ ڈالو۔ سو بات کی ایک بات کہی تھی میں نے!"

"مگر اپنا پیٹ کیسے بھرے گا؟"

"اپنا پیٹ کاٹ کر ہی اولاد کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے۔ جلدی جلدی کوئی خریدار ڈھونڈ نکالو۔ میں اپنی لاڈلی بیٹی کو بن ہار کے دیکھوں تو میری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ ساگن کے سینے پر ہار نہ چمکے تو مجھے تو اللہ قسم رونا آجاتا ہے!"

احمد علی بہت دیر تک چارپائی پر آنکھیں بند کئے بیٹھا رہا۔ بیوی کے خراٹوں سے تنگ آکر لیٹ جاتا تو اپنی بیٹی کے' خواب میں کوئی بے معنی سا نغمہ گنگنانے سے پھر اٹھ بیٹھتا۔ چارپائی سے اتر کر چلنے پھرنے کو جی چاہا۔ باہر مہاوٹیں پڑ رہی تھیں اور اندر ٹہلنے کی جگہ نہ تھی۔ کسی وقت آنکھ لگی' مگر یہی دو چار لمحے' جیسے کسی نے دل میں سوئی چبھو دی۔ کانپ کر سر اٹھایا۔ دروازے کی طرف دیکھا کہ شاید باہر پو پھوٹنے کے آثار ہوں۔ گھٹاٹوپ اندھیرا تھا۔ اس کے سرہانے غلے کی بوریوں کے پاس ایک ٹڈی اپنا کرخت نغمہ الاپ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ نغمہ اس کے دماغ میں تیز نشتر کی طرح تیرتا جا رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر بوریوں کے قریب زور سے تالی بجائی۔ ٹڈی خاموش ہو گئی اور وہ اپنے سوئے ہوئے بازو پر رکھتا ہوا سر رکھ کر اسی بے نتیجہ سوچ میں غرق ہو گیا۔

انسانی دل دھڑکتا نہیں' ہر لمحے نئے ارادے تخلیق کرتا ہے۔ کئی

ارادے پیدا ہوتے ہی رد کر دیئے جاتے ہیں اور کئی اتنے بڑے ہو جاتے ہیں ——— اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ دل کی سی محدود چار دیواری میں نہیں سما سکتے! کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکل پڑنے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں اور اگر یہ ارادے بھی آخرکار رد ہو جائیں' تو دل اس ساغر کی طرح بے رونق ہو جاتا ہے' جس میں سے شراب انڈیل لی گئی ہو۔ احمد علی کا ارادہ اگا' بڑھا' کونپلیں پھوٹیں' کونپلیں شاخوں میں تبدیل ہو گئیں' شاخیں پتوں کے بوجھ سے زمین پر جھک گئیں اور انہوں نے زمین میں اپنی جڑیں اتار کر مختلف درختوں کی صورتیں اختیار کر لیں۔ احمد علی کو اپنا ارادہ گاؤں کے پنگھٹ کے کنارے اگے ہوئے بڑ کی طرح نظر آنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بوریوں کو چھوا۔ "میری زمین کی دولت!" پھر اپنی بیٹی کی چارپائی کو چھوا۔ "میری زندگی کا واحد سہارا!"

اب وہ مزے سے سو رہا تھا۔

جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج نیزہ بھر ابھر چکا تھا۔ اس کی بیوی باہر دھوپ میں دودھ بلو کر مکھن نکال رہی تھی اور بیٹی چھاج میں غلہ پھٹک رہی تھی۔ پڑوس میں ڈگڈگی بجنے کی آواز آرہی تھی۔

وہ چارپائی پر اٹھ بیٹھا۔ ڈگڈگی والا اسی کے گھر آرہا تھا اور اس کے پیچھے ایک بندریا جھومتی جھامتی آرہی تھی۔

"تیرا گھر آباد' تیرے دشمن برباد' تیرے بچے کی خیر' اپنے پیر کے صدقے' بوڑھی بندریا کو کچھ کھلا دے۔ لے مائی اپنے بچے کا نام بتا۔ بندریا تیرے بچے کی شادی پر ناچنا چاہتی ہے!"

احمد علی کی بیوی بولی۔ "میرا لڑکا کوئی نہیں بابا!"

"تیری لڑکی جیئے' تو اپنی آنکھوں سے اس کو ساگن دیکھے' تو اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے میں سونے کا ہار ڈالے!"

چھاج پھٹکنے کی آواز بند ہو گئی! مکھن نکالنے کی آواز بند ہو گئی۔ احمد علی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

کے دل کے دھڑکنے کی آواز بند ہو گئی!

ڈگڈگی والا سوچنے لگا کہ اس کے منہ سے کون سا ایسا نازیبا کلمہ نکلا کہ گھر کا گھر دم بخود ہو کر رہ گیا! بندریا کے دم کے بال بھی کھڑے ہو گئے۔

دنیا کے بڑے بڑے واقعات اور ان ذرا ذرا سے حادثات میں آخر فرق ہی کیا ہے۔ یہ ننھا سا واقعہ احمد علی اور اس کی بیوی کے لیے کتنا عظیم الشان واقعہ تھا——— زندگی کی ساری تمناؤں کی معراج!——— واقعات کی عظمت دلوں کی دھڑکن سے پہچانی جاتی ہے۔ جب نپولین ایٹلپس کی برفانی چوٹیوں کو روندتا ہوا ان کی دشوار گزاری پر مسکراتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا تو کیا اس کے دل کی دھڑکن احمد علی کے دل کی دھڑکن سے زیادہ تیز ہو گی؟

احمد علی نے اپنی پگڑی اتار کر ڈگڈگی والے کو دے دی۔

من کی بات بوجھ کر دعا دینے والے فقیروں کو انسان جو بھی دے کم ہے۔

احمد علی نے ایک میلا سا پٹکا سر کے گرد لپیٹا اور باہر جانے لگا۔ بیوی نے اسے چھاچھ پینے کو کہا اور بولی۔ "آج تو خوب سوئے!"

شاید اس نے شوہر کے بستر کی شکنیں نہیں دیکھی تھیں۔ احمد علی نے کہا۔ "جانے آج کیوں ایسی گہری نیند آئی؟ چھاچھ جلدی لے آ مجھے بڑے ضروری کام پر جانا ہے۔"

"بڑا ضروری کام!"

اس کی بیوی کا ہاتھ کانپ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ بڑا ضروری کام کون سا ہے؟ آپ سے آپ اس کی نظر اپنی بیٹی کے سینے پر چارپائی' جو موٹی سی نیلی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نیلے پردے کو چیر کر اس کی نگاہیں ایک سنہرا ہار دیکھنے

لگیں' جس کے وسطی حصے میں سرخ رنگ کا ایک نگینہ مسکرا رہا تھا۔ پڑوس کی نئی دلہن کے ہار کی طرح!

احمد علی چھاچھ پی کر زیلدار کے گھر گیا۔ وہ ڈیوڑھی کے باہر دھوپ میں بیٹھا پیچوان کے کش لگا رہا تھا۔ احمد علی کو اتنا سویرے آتا دیکھ کر بولا۔ "کیا بات ہے احمد علی! خیر تو ہے نا؟ آج صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ بھتیجی کا کام کب شروع کرو گے؟ کوئی میرے لائق خدمت ہے؟"

احمد علی ایک مختصر سے سوال کے مختصر سے جواب کا خواہش مند تھا۔ بولا۔ "ملک جی مجھے اپنی زمین بیچنے کی ضرورت پڑ گئی ہے' اگر آپ اس وقت یک مشت رقم ادا کر دیں تو میں انتقال آپ کے نام چڑھا دوں۔"

زیلدار نے جواب دیا۔ "نقد رقم میرے پاس موجود نہیں۔ دونوں لڑکوں نے چھ ماہ سے پھوٹی کوڑی تک نہیں بھیجی۔ غلہ اب کے بکا نہیں' بہت سستا تھا۔ گرانی کا انتظار تھا۔ مگر پچھلے دنوں بارش ہو گئی۔ میں ماہ دو ماہ کے بعد رقم دے سکوں گا۔"

احمد علی مایوس ہو کر بولا "مہینے دو مہینے کون انتظار کرے ملک جی! آپ کی بھتیجی کا کام تو بس آٹھ دس دن کے بعد ہونے والا ہے' لڑکے والے تنگ کر رہے ہیں۔ اس کی چھٹی ختم ہونے والی ہے اور ادھر سرحد پر لڑائی شروع ہے۔ اسے پھر چھٹی نہ ملے گی۔ اگر آپ نہ خرید سکیں تو میں چودھری نبی بخش سے بات کروں۔"

"میرے دشمن سے!"

"مگر مجبوری ہے نا ملک جی!"

"یعنی تمہیں میری پروا نہیں!"

زیلدار نے غصے میں آکر اس زور سے حقے کا کش لگایا کہ دو چار کوئلے چلم میں سے اچھل کر فرش پر جا گرے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

گاؤں کے سردار سے دشمنی مول لینا بہت مہنگا سودا تھا۔ لیکن بیٹی کی شادی کو معرض التوا میں ڈالنا بھی احمد علی کے خیال میں اچھی بات نہ تھی۔ سوچنے لگا۔ مفت میں برادری میں ہتک ہوگی کہ جیب خالی تھی گھبرا گیا۔

اسے معلوم تھا کہ ذیلدار اپنے مخالفین کو بے گار میں پکڑ کر تھانے دار کے کام پر بھیج دیتا ہے' پولیس والوں کے آنے پر ان کے گھر سے مرغیاں مفت پکڑوا لیتا ہے' ان پر سرکاری ذخیرے سے لکڑیاں کاٹ کر لانے کا الزام دھر کر بیس بیس روپے جرمانہ کرا دیتا ہے۔ رات کو چوکیدار کے ہاتھ میں درانتی دے کر اس کی فصل کٹوا سکتا ہے! لیکن سونے کے ہار کی جگمگاہٹ اس کے ان خیالات پر چھا گئی۔ اور وہ چودھری نبی بخش کے مکان کی طرف اس تیزی سے چلنے لگا کہ گلی میں اس کے پیچھے بہت دیر تک غبار کی ایک لکیری نظر آتی رہی۔

چودھری نے زمین کی آدھی قیمت بتائی۔

احمد علی نے اعتراض کیا تو وہ بولا۔ "تو پھر کہیں اور بیچ ڈالو میری طرف سے تمہیں آزادی ہے' ذیلدار کے ہاں بیچ دو۔"

"نقد روپیہ اور کون دے گا؟"

احمد علی جیسے اپنے دل سے مشورہ کر رہا تھا۔

"ہاں ہاں۔ میری طرف سے تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں' میں نے اپنا فیصلہ بتا دیا۔ منظور ہو تو نقد لے لو اور رسید لکھ دو۔"

اس نے ایک طرف ہاتھ بڑھایا' تکیے کے نیچے سے ایک تھیلی چھن چھن کرتی احمد علی کے سامنے آگری۔

احمد علی کی نبض رقص کرنے لگی' سونے کا ہار فضا میں جھولتا ہوا کہیں غائب ہو گیا۔

اس نے چودھری کی لکھی ہوئی رسید پر انگوٹھا لگا کر ڈھائی سو روپے لے لیے اور گھر کا رخ کیا۔ زمین بک جانے کے خیال سے اس کے دل میں ایک

www.iqbalkalmati.blogspot.com

شعلہ سا بھڑک اٹھا تھا اور پگڑی میں بندھے ہوئے ڈھائی سو روپے کو چھو کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی تھی۔ خیالات کے مدوجزر سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ راستے میں سوچا کہ اب ہار لے کر گھر جاؤں تو لطف آئے۔ ایک بار تو بیوی کا دل دھک سے رہ جائے گا۔ بے چاری خوشی سے مر نہ جائے۔

تین میل دور ایک قصبے کے بڑے سنار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے چاندی کے تمام زیور اسی سے خریدے تھے۔ سنار اسے بڑے تپاک سے ملا۔ ہاتھ ٹیک کر تظیما" اٹھا اور پھر اڈے پر بیٹھ گیا۔ اپنی سانسوں کو جو اٹھنے کی کوشش میں گتھم گتھا ہو گئی تھیں' اپنی اصلی حالت میں لانے کی سعی کرتے ہوئے بولا۔ "ادھر میرے پاس تشریف رکھیئے' سنایئے کیسے آنا ہوا' آپ تو ہمارے پرانے گاہک ہیں اور پرانے گاہکوں سے ہم عام دکانداروں سا برتاؤ نہیں کرتے۔ پرماتما کی قسم! آپ تو میرے بھائی ہیں!"

احمد علی نے شکریہ ادا کر کے ہاروں کی فرمائش کی۔ اب کے سنار اس تیزی سے اٹھا' جیسے ربڑ کا ہلکا پھلکا غبارہ پھونک مارنے سے ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لوہے کی ایک الماری تک گیا۔ ایک زرنگار صندوقچہ نکالا اور جھاڑ پونچھ کر احمد علی کے قدموں میں رکھ دیا "یہ سب آپ کا مال ہے۔"

احمد علی کے نتھنے پھڑکنے لگے۔ سانسیں تیز ہو گئیں۔ آنکھیں چمک اٹھیں' ہاتھوں میں رعشہ آگیا۔ صندوقچہ کھولا تو آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس نے ایک لمبا سا خوبصورت ہار چن لیا جس کے وسطی حصے میں سرخ رنگ کا ایک نگینہ مسکرا رہا تھا۔ پڑوس کی نئی دلہن کے ہار کی طرح۔

"اس کی قیمت؟"

سنار نے پھونکنی کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہا۔ "آپ سے ایک بات کرونگا۔ ڈھائی سو روپیہ!"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

"لیکن....."

"میں نے لیکن ویکن کی تو گنجائش ہی نہیں رکھی ملک احمد علی! اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس سے پورے پانسو بٹورتا۔ لیکن آپ میرے پرانے گاہک ٹھہرے۔میرے بھائی! لاگت کے دام بتائے ہیں۔ یہی سمجھوں گا کہ باقی رقم اپنی بھتیجی کو شادی کی خوشی میں پیش کر دی۔"

احمد علی کی پگڑی نے ڈھائی سو روپیہ اگل دیا۔

شادی کے دن جب جہیز صحن میں بچھایا گیا تو احمد علی ایک چنگیر میں سونے چاندی کے زیور سجا کر لے آیا اور انہیں پلنگ پر رکھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ عورتیں اس چمکتے دمکتے ہار کو دیکھ کر انگشت بدنداں ہو گئیں اور ایک دوسرے کے ہاروں کو چھو چھو کر کہنے لگیں۔ "اری اس سے بڑھیا ہے۔ دیکھ تو سہی جیسے پلنگ پر آگ جل رہی ہے۔"

فضا سرگوشیوں کی سرسراہٹ سے معمور ہو گئی ——— "سونے کا ہار! ——— سونے کا ہار! ——— آدھ پاؤ سونے کا ہار! ——— احمد علی نے اپنے خاندان کی لاج رکھ لی۔"

ناگاہ بوڑھوں کے مجمعے سے ذیلدار نکلا اور احمد علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ "مبارک ہو احمد علی! خدا کرے میرے بھتیجی سکھ چین سے سہاگ کی زندگی بسر کرے۔"

اس نے بڑھ کر ہار اٹھا لیا۔ تمام مجمع دم بخود کھڑا تھا۔ سب کے لبوں پر تعجب انگیز مسکراہٹ تھی۔ احمد علی کی حیثیت ایسے گراں بہا ہار سے بہت کم تھی۔ یہ اس کی محبت پدری کا ایک معجزہ تھا۔

ذیلدار ہار کو اپنی آنکھوں کے بہت قریب لے گیا' الٹ پلٹ کر دیکھنے

لگا۔ اور بھرے مجمع میں بلند آواز سے بولا۔ "احمد علی! یہ تو نقلی سونا ہے۔"

مجمع پر مردنی سی چھا گئی۔ ذیلدار کچھ وقفے کے بعد بولا۔ "یہ تو نقلی سونا ہے' دس پندرہ روپے کا ہو گا یہ ہار' چمک دمک تو بہت زبردست ہے اس کی!"

احمد علی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "میں نے تو یہ ہار ڈھائی سو روپے میں خریدا ہے۔"

ذیلدار بولا۔ "خریدا ہو گا مگر اصل میں یہ ہے پندرہ روپے کا۔ تانبے پر سونے کا طمع چڑھا ہوا ہے۔ امیر چند سنار! ادھر آنا ذرا' یہ ہار دیکھنا۔"

احمد علی کی قسمت کا فیصلہ امیر چند کی زبان کی ایک ذرا سی حرکت پر منحصر تھا۔ امیر چند نے عینک لگا کر ہار کو بغور دیکھا اور اسے چنگیر میں رکھتے ہوئے بولا۔ "نقلی ہے۔"

ہر طرف چہ میگوئیاں ہونے لگیں۔ عورتیں ناک پر انگلی رکھ کر احمد علی کا تمسخر اڑانے لگیں۔

احمد علی پلنگ کے رنگین پائے کا سہارا لیے بت کی طرح کھڑا رہا' وہ اپنی آنکھیں تک جھپکانا بھول گیا۔

دلہن ڈولی میں سوار ہونے کو تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر آ رہی۔

ذیلدار سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہوا اپنے حواریوں کے ساتھ ایک گلی میں مسکراتا جا رہا تھا۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

غریب کا تحفہ

میں نے اسے گاؤں سے باہر ایک کھنڈر کی جھکی ہوئی دیوار پر اپلے تھوپتے دیکھا۔ اس نے مجھے ایک بار اچٹتی سی نظر سے دیکھا اور اپنے کام میں مصروف ہوگئی۔ میں نے بھی اس پر یونہی ایک اڑتی سی نگاہ ڈالی اور آگے نکل گیا۔ اپلے تھوپنا کوئی ایسا تعجب انگیز کام نہ تھا کہ میں ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا اور اسے گھورنے لگتا۔ گاؤں کی ہر عورت صبح اٹھ کر نماز سے پہلے یہی کام کرتی ہے۔ میں وہاں سے گھر آگیا۔

دوسرے روز میں منہ اندھیرے ہی گھر سے نکلا کیونکہ اس روز مجھے ایک بہت بلند چوٹی پر طلوع آفتاب کا منظر دیکھنے جانا تھا۔ میں گاؤں سے باہر نکلا تو ایک سایہ سا سر پر ٹوکری اٹھائے میرے آگے آگے رینگتا نظر آیا۔ میں نے یونہی پوچھ لیا۔ "کون ہے بھائی؟"

"جی میں ہوں!" یہ ایک عورت کی آواز تھی۔ میں خاموش رہا۔

طلوع آفتاب کا منظر دیکھ کر میں اسی راستے سے واپس ہوا تو اسی دیوار

www.iqbalkalmati.blogspot.com

پر اپلے تھوپے جا رہے تھے۔ اس نے مجھے ایک بار دیکھا اور اس کے دیکھنے میں کوئی ایسی بات نہ تھی کہ میں رک جاتا۔ میں چلتا گیا اور وہ سر جھکائے تھپا تھپ اپنے ہاتھوں کو تیزی سے جنبش دیتی رہی۔

اور یہ منظر میں نے صرف دو دن ہی نہ دیکھا۔ متواتر دس روز مجھے یہی لڑکی اسی کھنڈر کے پاس اپنے کام میں مصروف نظر آتی رہی۔ دسویں روز میرے دل میں خیال آیا کہ آخر یہ لڑکی اپنے گھر اپلے کیوں نہیں تھوپتی۔ یہاں بھیانک کھنڈر کی کمزور دیوار سے اسے کیا لگاؤ ہے! ——— لیکن ان دنوں میں اپنی شادی کی تیاریوں میں اس شدت سے مصروف تھا کہ ایک خیال کا مسلسل میرے دماغ پر مسلط رہنا دشوار تھا ——— میں سیدھا اپنے گھر آگیا۔

دوسرے روز میں علی الصبح اٹھ کر گاؤں سے باہر گیا تو وہ رستے میں بیٹھی گوبر اکٹھا کر رہی تھی۔ رستہ ذرا تنگ تھا' میں اس کے قریب آکر رک گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور تیزی سے ایک طرف ہو کر بولی۔ "گزر جایئے جی۔"

میں نے ایک قدم اٹھایا مگر مڑ کر صرف اتنا پوچھ لیا۔ "تم کس کی بیٹی ہو؟"

اس نے پھٹی ہوئی چادر سینے پر پھیلا کر کہا۔ "میں پردیسی ہوں جی۔ میرے ماں باپ مر گئے ہیں۔"

میں نے پوچھا۔ "کس کے اپلے تھوپتی ہو؟"

بولی۔ "اپنے جی! انہیں بیچ کر پیٹ بھرتی ہوں۔"

میں آگے نکل گیا۔ ایک بار مڑ کر دیکھا تو وہ ایک اور جگہ بیٹھی ٹوکری میں گوبر ڈال رہی تھی۔ میری کنپٹیوں کی رگیں پھول کر دکھنے لگیں اور دماغ کی نسوں میں ایک کھچاؤ سا پیدا ہو گیا۔ میں راہ کے ہموار ہونے کے باوجود ٹھوکریں کھانے اور ہانپنے لگا! ——— واپسی پر میں نے اسے اسی دیوار کے پاس جھکتے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

اٹھتے اور پلٹتے دیکھا اور اگلے روز وہ مجھے پھر اسی راستے پر ملی۔ میں اس کے قریب آکر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور بولی۔ "آپ ہیں جی!"

"ہاں!" میں بولا۔

"بہت سویرے نکلتی ہوں گاؤں سے!" ——— وہ نظریں جھکائے ہوئے ایک طرف ہو کر کہنے لگی۔ "سویرے نہ نکلوں تو دوسری لڑکیاں راہیں صاف کر جائیں اور میرا تو یہی روزگار ہے جی!"

میں وہیں رک سا گیا۔ وہ ٹوکری اٹھا کر آگے جانا چاہتی تھی۔ مجھے چپ چاپ کھڑا دیکھ کر بولی۔ "آپ صبح سویرے کہاں جاتے ہیں جی؟"

"سورج کے طلوع ہونے کا منظر دیکھنے۔" میں نے کہا۔

"اچھا جی!" اس نے یہ الفاظ یوں کہے گویا وہ میرا مطلب نہیں سمجھی۔

چار دنوں کے لیے مجھے گاؤں سے باہر جانا پڑا۔

پانچویں روز میں واپس آیا تو صبح سویرے اٹھ کر ادھر چل دیا۔ وہ بھینسوں کے ایک گلے کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اچانک وہ گوبر اٹھانے کے لیے جھک گئی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور اس کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ بولی۔ "آپ کہاں چلے گئے تھے جی؟"

"پردیس میں کچھ کام تھا۔" میں نے کہا۔

وہ ٹوکری کو سر پر جما کر بولی۔ "میں چار دن آپ کی راہ دیکھتی رہی۔ میں نے کہا' اللہ خیر کرے ملک جی کیوں نہیں آئے! میں تو آپ کے گھر جانے والی تھی۔"

میرا دل دھڑک کر بجلی کی لہریں سی چھوڑنے لگا' جسم سن ہو کر رہ گیا اور کانوں میں ایک مسلسل سی گونج پیدا ہو گئی۔

بادلوں کے دو چار گول گول ٹکڑے مشرقی پربت پر منڈلا رہے تھے۔

ابھرتے ہوئے سورج کی لرزتی ہوئی کرنوں سے ان پر لحہ بہ لحہ گلابیاں دوڑی جا رہی تھیں اور ان کے عکس خاموش وادی پر ارغوانی پردے سے پھیلا رہے تھے۔ گیہوں کے تازہ اگے ہوئے پودے اوس کے بوجھ سے زمین پر جھکے جا رہے تھے اور دور بھینسیں چرانے والا گاموں مہینوال درد ناک سروں میں ایک گیت الاپ رہا تھا:

گجدیاں وجدیاں ہاٹھاں چڑھیاں
کن کن کنیاں وسیاں!

اس وقت میں نے لڑکی کو کچھ اس طرح دیکھا کہ وہ کانپ کر لجا گئی۔ اس کا رنگ پربت کی چوٹی پر منڈلاتے ہوئے بادلوں کا سا ہو گیا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں پر پھیلی ہوئی نمی کی ہلکی سی تہہ بھی گلابی ہو گئی۔ اس نے جھک کر ٹوکری اٹھائی اور آگے جانے لگی۔ مہینوال بہت دور جا چکا تھا اور گاؤں کے آس پاس کوئی شخص نظر نہ آتا تھا۔ لڑکی کا کھلی آستینوں والا میلا چولا نرم نرم جھونکوں سے آہستہ آہستہ لہرا رہا تھا اور جس بازو سے اس نے ٹوکری تھام رکھی تھی وہ شانے تک عریاں تھا ——— میں بے ارادہ اسکی طرف تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک گنجان جھاڑی کے پاس میں نے اسے جا لیا۔

اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور ہونٹوں پر کپکپی۔ اس کے پریشان بال اس کے گالوں اور کانوں کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہے۔ وہ قریب ہی گول گول پتھروں کی دیوار سے چمٹ گئی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ "آپ! ——— ملک جی آپ کیا چاہتے ہیں؟" ——— اس نے ٹوکری دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑ لی۔ اس کا دوسرا بازو بھی عریاں ہو گیا۔ میلی چادر سینے سے ڈھلک کر ایک طرف لٹکنے لگی۔ اور اس کی سانسیں بہت تیز ہو گئیں۔

میں گھبرا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا کہوں ——— میں اسے کچھ

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

کہنا ضرور چاہتا تھا' مگر میری زبان کوئی لفظ نہ ڈھال سکی' حلق میں پھندا سا پڑ گیا اور جھجک کر بولا۔ "تمہارا نام کیا ہے؟"

"خانی" اس نے یہ لفظ ایسے کہا جیسے اس نے ایک بہت بھاری مصیبت سے چھٹکارا پا لیا ہے!

میں واپس ہو پڑا۔ میں وہاں ٹھہر نہ سکا۔ میری نبضوں سے آنچ اٹھنے لگی اور کان گونجنے لگے۔ میں گاؤں میں داخل ہوا تو نوجوان مستری "دینو" ملا۔ بولا۔ "السلام علیکم ملک جی! خیریت تو ہے؟ آپ کا چہرہ زرد ہو رہا ہے۔"

"خیریت ہے بھائی!" ——— اور میں تیزی سے آگے نکل گیا۔ نوجوان زور سے کھانسا——— کھانسی مصنوعی تھی! ——— میرے دل میں جیسے کسی نے چٹکی لی۔

دن بھر میں چوپال میں نہ گیا۔ نمبردار نے دو تین لوگوں کے ذریعے کہلوا بھیجا کہ وہ لاہور سے نئے ریکارڈ خرید لایا ہے اور تمام گاؤں صرف میرے انتظار میں چوپال پر اکٹھا ہے' لیکن میں نے کوئی بہانہ کر کے انہیں ٹال دیا۔ ابا آئے' پوچھنے لگے۔ "آج پڑھا کچھ نہیں!" میں نے کہا۔ "جی سر میں درد ہے۔" آن کی آن میں انگریزی اور یونانی ادویات کا انبار میرے سامنے تھا ———!

شام کو میں چھت پر ٹہلنے کے لیے کمرے سے نکلا۔ دیواروں پر اپلوں کی قطاریں پڑی تھیں۔ بے ارادہ میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ "امی! یہ اپلے کس نے تھوپے؟"

"بیگماں نے اور کس نے!"

"اچھا! بیگماں نے! ———میں سمجھا کہیں سے خریدے ہیں!"

امی آنکھیں جھپکانے لگیں۔ بولیں۔ "سر تو نہیں گھوم رہا تیرا؟ ——— اندر لیٹ جا کمرے میں۔ ہوا لگ جائے گی۔"

لیکن میں شام کے اندھیرے میں گھر سے نکلا اور اسی کھنڈر کی طرف چل دیا۔ اپلوں پر اپلوں والی کی انگلیوں کے نشان تھے جن پر میں اپنی انگلیاں پھیرتا رہا۔ سامنے اندھیرے میں مجھے میرے شہری دوست ہنستے نظر آئے اور پھر اسی اندھیرے سے ایک لڑکی سر پر ٹوکری اٹھائے ابھری اور اسی اندھیرے میں تحلیل ہو گئی۔

گاؤں میں گھر گھر دیئے ٹمٹما اٹھے۔ میراسیوں کے گھر سے شہنائیوں کی آواز بلند ہوئی۔ کوئی نوخیز لڑکا شہنائی سیکھ رہا تھا۔ کھنڈر کی دیواریں تاریکی میں گھل گئیں۔ اندھیرا اس قدر گہرا ہو گیا کہ مجھے اپنا وجود تک نظر نہ آتا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا۔ آسمان پر بھیانک بادل گھر آئے تھے۔

میں چپ چاپ سر جھکائے گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے قدموں کی چاپ سے جھینگر بھی خاموش ہو گئے اور ہوا بھی جیسے ساکن ہو گئی۔ پگڈنڈی سے دور ایک کمہار کے گھر سے کتا میری طرف جھپٹا اور میرا پتھر کھا کر ٹیاؤں ٹیاؤں چیختا لوٹ گیا۔

دور کہیں بادل گرجے ——— دور کہیں بجلی چمکی اور کھیتوں کی پرلی طرف سے کوئل کی آواز آنے لگی اور خوابیدہ جھاڑیاں اپنے پتے کھڑکھڑانے لگیں۔ پھوئیوں پھوئیوں مینہ برسنے لگا۔ میں گھر کی طرف دوڑنے لگا۔

اچانک میرے قدم آپ سے آپ رک گئے اور پھر میں پلٹ کر کھنڈر کی جانب دوڑا۔ میں نے سوچا' غریب لڑکی کی ہفتوں اور مہینوں کی محنت خاک میں مل جائے گی۔ اپلے بھیگ جائیں گے اور بے چاری فاقے کھینچے گی! جتنے اپلے اندھیرے میں اکٹھے کر سکا' کھنڈر کی بوسیدہ چھت کے نیچے رکھتا گیا۔ اسی اثنا میں مینہ چھاجوں پڑنے لگا۔ بجلی کی چمک' بادل کی کڑک اور ہواؤں کی چیخوں سے اندھیرے میں ہنگامہ سا مچ گیا۔ لیکن میں خوش تھا۔ غم و اندوہ کی دھند چھٹ گئی۔ میں ٹھنڈی ہوا اور تیز پھوار کے سیلاب میں کود گیا اور نہایت تیزی سے

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

گاؤں کی طرف بھاگنے لگا۔

اچانک مجھ سے کوئی چیز ٹکرائی اور ساتھ ہی ایک ہلکی سے چیخ سنائی دی۔ میں کیچڑ میں سے اٹھتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے لگا کہ کہیں گرنے والا بے ہوش تو نہیں ہو گیا۔ پہلے تو میرے ہاتھ بہتے ہوئے پانی میں تیرتے رہے' پھر ان میں لمبے لمبے بال مس ہوئے ——— اور پھر ایک بھیگے ہوئے سڈول بازو پر ——— میرا ہاتھ ایک جھٹکے سے پرے ہٹا دیا گیا۔ اور خوفزدہ آواز آئی۔ "تم کون ہو؟"

یہ اپلوں والی کی آواز تھی۔ میرا دماغ قلابازی سی کھا گیا۔

میں بولا۔ "اندھیرا تھا خانی! ——— اور پھر میں کوئی غیر تو ہوں نہیں!"

تیز تیز سانس اور ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکوں کی سرسراہٹوں میں کمہار کے کتے کی آواز گونجی جو شاید بادلوں پر بھونک رہا تھا! ——— خانی خاموش تھی۔

اچانک بادل زور سے گرجا اور بجلی اس شدت سے چمکی کہ کھلے بالوں اور بھیگے لباس والی حسینہ دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں دو قدم آگے بڑھ گیا۔

میں نے پوچھا۔ "اس طوفان میں کدھر بھاگی جا رہی تھیں؟"

"جی! کھنڈر کی طرف۔" اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ "جی میں نے ان تین ہفتوں میں جتنے اپلے تھوپے وہ کوئی تین مہینوں میں تیار کر سکے تو جانوں۔ مجھ غریب کی یہی دولت تھی جی! سب اپلے بھیگ گئے ہوں گے اور میں ایک ہفتہ فاقے کاٹوں گی۔ اب ایک ہفتے تک ———" وہ آگے نہ بول سکی۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ میں اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ ہلاتا آگے بڑھا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوا۔ اسنے کوئی جنبش نہ کی۔ میں نے اس کا ہاتھ بالکل شہری نوجوانوں کی طرح دبایا اور بولا۔ "میں کھنڈر کی چھت تلے

تمہارے سب اپلوں کا ڈھیر لگا آیا ہوں ——— بے فکر رہو۔"

میں نے محسوس کیا کہ وہ کانپ گئی ہے۔ "آپ کتنے اچھے ہیں جی!"

"میں بہت برا ہوں خانی!" میں مدت کی ان کہی بات کہنا چاہتا ہوں۔ "میں نے تمہیں گرا دیا۔ اب جانے تمہیں کہاں کہاں چوٹیں آئی ہوں گی!"

"میرے کوئی چوٹ نہیں آئی! ——— آپ ———"

وہ رک گئی۔ بارش تھم چکی تھی' رات پہاڑی نالوں کی آواز سے گونج رہی تھی اور بجلی کی چمک افق کی طرف سرک گئی تھی۔ خانی نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ "اب میں گھر جاؤں جی؟"

"گھر؟" میں نے پوچھا۔ "تمہارا بھی کوئی گھر ہے خانی؟"

بولی۔ "جی ایک خدا ترس نے ایک کٹیا دے رکھی ہے۔ اب جا کر وہاں سے پانی نکالوں گی جو چھت سے ٹپکا ہو گا۔ پھر سر چھپانے کا سہارا تو ہے جی!"

میرا آراستہ پیراستہ کمرہ اچانک میرے ذہن میں ابھرا' لرزا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اندھیروں میں جذب ہو گیا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ میں نے سوچا ہم زندگی کے اس قدر مختلف زاویوں پر کیوں رکھے گئے ہیں ——— یہ کیسا قانون ہے ——— یہ کیسی مصلحت ہے۔

میں نے کہا۔ "خانی! آخر تم مجھے یہ کیوں نہیں بتاتیں کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ یہاں کیسے آئیں؟ تم گوبر چننے کے لائق نہیں تھیں خانی! ——— تم تو ریشم اور کم خواب میں لپٹی رہنے کے قابل ہو!"

"آپ ———" اس کی آواز کانپ گئی۔ "آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ——— آپ سن کر کیا کریں گے؟"

"خانی!" میں نے احساسات کے طوفان میں دب کر سرگوشی میں کہا "خانی" ———

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

میں نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں بھیگی ہوئی تھیں ——— مگر بارش کا پانی گرم تو نہیں ہوا کرتا!

میں نے کہا "خانی! تم اب غریب نہ رہو گی ——— میرے ہوتے تمہیں ———"

اس نے میری بات کاٹ لی۔ "آپ جی! ——— ایسی بات نہ کیا کریں میں ایسی کئی باتیں سن چکی ہوں اور اب انہیں بھلا بھی چکی ہوں؟ میرے ماں باپ نے مجھے جس خوبصورت نوجوان سے بیاہا' وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتا تھا۔ پھر جب ایک وبا میں میرے ماں باپ اور بھائی مر گئے تو اس نے ایک اور لڑکی سے شادی کر لی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب یہ باتیں مجھ پر اثر نہیں کرتیں ——— ریشم اور کم خواب پر سونے کی لذت میں بھی چکھ چکی ہوں اور گھسے پھٹے چیتھڑوں کی بھی! ——— اب اپلے تھوپنے میں ہی مزا ہے' اب ریشم و یشم کی ہوس نہیں رہی جی! آپ نے میرے اپنے محفوظ کر دیئے۔ اس کے لیے میرے پاس شکریئے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور اگر ہو بھی تو میں دینے کی جرات نہیں کر سکتی۔"

وہ رک گئی۔ اندھیرے میں کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ "خانی! تم مجھے ایسا نہ سمجھو۔ میں ان لوگوں میں سے ———" ایک اور آواز آئی۔ میں نے کہا۔ "کوئی مجھے ڈھونڈھ رہا ہے۔ کل ملو گی؟ ——— کھنڈر کے پاس؟ ——— کل صبح ——— یا شام کو ——— ملو گی نا؟" ———

اور کوئی جواب نہ پا کر میں نے کہا۔ "اچھا" ——— میں اس کا ہاتھ تیزی سے اپنے لبوں تک لے گیا۔ اس نے چیخ کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ میں گھبرا گیا اور دوڑتا ہوا پکارنے والے کی طرف بڑھا۔ میں نے زور سے کہا۔ "کون ہے بھائی؟"

آواز آئی۔ "میں ہوں جی! ——— ویرو مستری۔ سارا گھر آپ کی فکر

میں پریشان ہے۔ آپ بارش میں کدھر نکل گئے تھے؟ ——— بیماری کی حالت میں!" اور جب وہ میرے قریب آیا تو بولا۔ "یہ چیخا کون تھا ملک جی؟"

میں نے گھبرا کر کہا "میں چیخا تھا۔ ایک کنکر چبھ گیا تھا پاؤں میں۔"

ویرو زور سے کھانسا۔ کھانسی مصنوعی تھی۔ میرے دل میں جیسے کسی نے چٹکی لی۔

"کھنڈر میں پناہ لی ہو گی آپ نے؟" اس نے پوچھا اور میں کانپ اٹھا۔

بڑی مشکل سے بولا۔ "نہیں نہیں۔ یہیں چلتا پھرتا رہا۔ مجھے ایسے سیر کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔"

"ٹھیک ہے ملک جی!" ——— اس کے انداز گفتگو میں تصنع تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر آیا اور بڑی مشکل سے گھر والوں کی تسلی کرائی۔

صبح کو اٹھ کر میں نے کھنڈر کی راہ لی۔ وہ وہاں موجود تھی' مجھے دیکھ کر شرما گئی۔ مطلع صاف تھا۔ گہرے نیلے آسمان میں سورج کی آتشی ٹکیا پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ گاؤں کی چھتوں سے دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ نہائے دھوئے پہاڑ صاف جھیلوں میں اپنے عکس دیکھ رہے تھے اور خانی کھنڈر سے اپلے اٹھا کر باہر دیوار پر چن رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا

"خانی! میرے خیال میں کل کی رات خوب تھی ——— کیا ایسا ہو سکتا ہے؟"

اس نے لجا کر سر جھکا لیا۔

میں نے فرسودہ اور اکھڑ انداز میں اظہار محبت کیا۔ "خانی! میں تم سے محبت کرتا ہوں!"

وہ مسکرائی۔ اس کے لبوں کے گوشوں میں گہرا طنز تھا۔ بولی۔ "خدا آپ کا بھلا کرے!"

مجھے اس کے جواب سے تسلی نہ ہوئی اور پھر سوچا کہ آخر میں نے بھی ابھی اظہار محبت کے جدید طریقے استعمال نہیں کئے۔ دراصل میرا یہ اظہار اتنا

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

تیز اور رواجی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نئے الفاظ کی تلاش کرنے لگا اور گردن کھجاتے ہوئے پلٹ کر گاؤں کی طرف دیکھا۔ دینو مستری کے کوٹھے کی منڈیر پر ایک بوڑھا مرغا گردن تان کر پکارا "ککڑوں کوں ——" یعنی تم نے منہ کی کھائی ہے۔ میرے دل میں جیسے کسی نے چٹکی لی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک چیل کسی بدبخت مرغی کا چیختا ہوا چوزہ پنجوں میں لئے سورج پر سے گزرتی ایک پہاڑی کے تاریخ درے میں گھس گئی۔

میں چپ چاپ اپنے گھر آگیا۔

اس سال کسی خاص مصلحت کی بنا پر میری شادی روک لی گئی۔

دوسرے سال گرما کی رخصتوں میں میں لاہور سے اپنے گاؤں آیا۔ برات دھوم دھام سے دلہن کے گھر روانہ ہوئی۔ میرے شہری دوستوں نے گا گا کر میرے سرے پڑھے۔ میرے دیہاتی ہمجولیوں نے تالیاں بجا بجا کر ڈھولک کے اردگرد ناچ ناچ کر اپنی بے لوث مسرت کا ثبوت دیا۔

صبح ہوئی تو میں شب بیداری کا اثر دور کرنے کے لیے اکیلا کھیتوں میں نکل گیا۔ اچانک مجھے عقب میں کسی کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اپلوں والی کھڑی مسکرا رہی تھی۔

"خانی!" میں نے حیران ہو کر کہا۔

بولی۔ "آج کس کی شادی ہے جی؟"

میرے دماغ پر بجلی سی آگری! خون کی جگہ میری رگوں میں خانی گردش کرنے لگی۔ آسمان میں جیسے ایک شگاف سا پیدا ہو گیا اور میرے سر پر کئی چٹانیں آگریں۔ میں تیورا سا گیا!

کچھ دیر کے بعد میں نے سر اٹھایا تو دینو مستری اپنے کوٹھے پر کھڑا کھانس رہا تھا اور اپلوں والی غائب تھی۔

میں سر جھکائے واپس ہو پڑا۔ اپنے گھر کے بڑے دروازے کے قریب

سے گزرا تو دور سے مجھے خشک اپلوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر نظر آیا۔

میں نے ایک میراثی سے پوچھا۔ "یہ اپلے کہاں سے آئے؟"

بولا۔ "کوئی رات کو ڈھیر لگا گیا ہے۔"

دعوت ولیمہ کے کھانے تیار کرتے وقت یہی اپلے جلائے گئے۔

* * *

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

استعفا

اختری کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ ایک بوڑھی خادمہ اور ایک نئی نئی امتانی' ڈھلتا بڑھاپا اور اٹھتی جوانی' آگ اور پانی میں اتحاد کیسے ہوتا' بات بات پر جھڑپ' بڑھیا تنگ آگئی۔ ایک روز جب اختری نے اسے گندے انڈے لانے پر ذرا سا کوسا' تو وہ بولی۔ "اے بی بی! یہ پڑے ہیں تیرے دیگچے دیگچیاں اور یہ پڑے ہیں وہ کپڑے جو تو نے پچھلے مہینے سلائے تھے۔ میں نے اس مہینے کی تنخواہ بھی بخشی' مجھ سے اب یہاں بسر نہ ہوگی' خاک چاٹ کر جی لوں گی۔ تیرے قورے زردے نے تو میری زندگی اجیرن کر ڈالی۔"

اور خلاف معمول اس روز اختری کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ بڑھیا کو دونوں شانوں سے پکڑ کر دھیرے سے جھنجھوڑا' اور بولی۔ "لے اب رہنے بھی دے بڑی اماں! تھوک دے غصہ۔ تیرے بغیر تو مجھ سے اس شہر میں نہ رہا جائے گا' مجھ سے وعدہ لے لے' آج کے بعد اگر تجھے کسی بات پر ٹوکوں تو میرے کان کتر لینا' میری توبہ!" ——— اور اختری نے اپنے کان پکڑ لیے۔

بڑھیا کے ماتھے پر شکنوں کی شطرنج بچھ گئی۔ دھندلی آنکھوں پر پانی کی

تہہ سی ابھر آئی۔ سوچنے لگی' اس اڑتی پھرتی چنگاری میں یہ خنکی کدھر سے آئی! اور پھر بدگمان سی ہوگئی۔ "نہ جانے ان میٹھے الفاظ کے پردے میں کیا زہر چھپا ہے۔ اس مخملی دستانے کے نیچے جانے کتنا تیز فولادی پنجہ کلبلا رہا ہے۔ ابھی کوئی گلاس ولاس لڑھک جائے گا مجھ سے اور میری چودہ پشتوں پر برس پڑے گی۔ مذبذب حالت میں کچھ بول نہ سکی' پلٹی اور باورچی خانے کی طرف چل دی۔

مگر اختری تو اس روز ربڑ کا غبارہ بنی پھرتی تھی۔ کبھی ادھر مٹک رہی ہے کبھی اُدھر اچھل رہی ہے۔ اب یہاں ہے تو پلک جھپکنے میں وہاں تھرک رہی ہے۔ پارے کی طرح تڑپتی اور کوندے کی طرح لپکتی' برآمدے سے باورچی خانے میں' باورچی خانے سے سونے کے کمرے میں۔ اور پھر آنکھوں میں ستارے چمک رہے تھے اور گالوں پر گلاب کھل رہے تھے۔

بات یہ ہوئی کہ اس روز سامنے کے بالا خانے میں ایک نوجوان کرایہ دار آبسا۔ اختری یونہی باہر گلی میں جھانک رہی تھی اور وہ نیم وا کھڑکی کے پاس الماری میں کتابیں سجا رہا تھا اور دردناک سروں میں کچھ گنگنا رہا تھا۔

اور جانے کیوں! اختری کے کانوں کی لویں لال پڑ گئیں اور ٹھوڑی کی گولائی لرز اٹھی۔ لپک کر آئینے کے سامنے آبیٹھی' بالوں کو سنوارا' قمیض کو کھینچ کھانچ کر جسم سے چمٹا لیا' لپ اسٹک سے ہونٹوں کو آگ لگا دی اور پھر دوڑ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ نوجوان ابھی تک گا رہا تھا۔

اور اختری محسوس کرنے لگی جیسے یہ ساری کائنات ایک سونا نگر ہے اور اس نگر کو بسانے کے لیے اس کی ایک نگاہ ناز' ایک لطیف مس اور ایک مبہم اشارہ ہی بس ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آج بڑھیا نے اختری کے منہ سے خلاف معمول اچھے الفاظ سنے تھے' اور اس کا دماغ بھنا سا گیا تھا۔

دوسرے روز جب اختری سکول گئی تو لڑکیاں آپس میں سرگوشیاں

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

کرنے لگیں۔ "شاید آج نیا سنگار دان آیا ہے استانی جی کا۔" ——— "شاید آج استانی جی کو کوئی موہنا سا خواب دکھائی دیا۔" ——— "آج موسلادھار بارش ہوگی!" ——— اختری سر جوڑ کر کھڑی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر سب کچھ بھانپ گئی۔ جب سے وہ قصبے کے ہائی اسکول میں آئی تھی' مٹیالے رنگ کی ایک ساڑھی میں ملبوس رہتی۔ لبوں پر پھیکی پھیکی مسکراہٹ' آنکھوں میں سائے' چہرے پر چھائیاں اور چال میں سستی' لاہور ایسے شہر کو چھوڑ کر وہ اس قصبے کو ایک ویران سا محلہ محسوس کرتی تھی۔ یہاں اسے دھندلا سا لیمپ جلانا پڑتا' جس کی روشنی میں اس کی آنکھیں دکھنے لگتیں۔ میری کوریلی کے ناول پڑھتی رہتی۔ اور جب ایک دو باب ختم کر لیتی' تو پریشان ہو کر اپنے آپ سے پوچھتی۔

"اری کیا پڑھا تو نے؟ خاک بھی تو پلے نہیں پڑا' جائے اس مغموم چھوکری کو وہ نوجوان" ——— بہت دیر تک سوچتی رہتی اور پھر کتاب کو دور پٹخ کر سونے کی کوشش میں مصروف ہو جاتی لیکن اسے بہت دیر تک نیند نہ آتی اور جب آتی تو سنسان خوابوں کا ہجوم لیے۔ اور پھر اس کی کوئی سہیلی بھی تو نہ تھی' جس سے جی بہلا رہتا۔ اس کے نزدیک اس قصبے کی سب عورتیں دراوڑوں کی اولاد سے تھیں' جنہیں نہ بدن ڈھانکنے کا ڈھب' نہ بات کرنے کا سلیقہ' تیل سے لپے ہوئے میلے چیکٹ دوپٹے' کھلی کھلی بھونڈی قمیضیں' بات بات پر مردوں سے بھی اونچے قہقہے' نہ امریکن فلموں کے تذکرے' نہ جمپروں کے نئے ڈیزائن' نہ میری کوریلی کے ناول پر بحثیں' بس گھی آٹے کا بھاؤ۔ اور ایک دوسرے کے گلے۔ صبح صبح وہ سکول جاتی' واپس آتی تو دھم سے پلنگ پر' بڑھیا کو گھرکیاں' کروٹیں اور انگڑائیاں' مٹی کے تیل کی بو' اور بھینسوں کے گوبر کی سڑاند! وہ تو پچھلے دنوں سے استعفا پیش کرنے کا بھی ارادہ کر بیٹھی تھی۔ ابا کو بھی لکھا' وہ سٹ پٹا کر یہاں دوڑے آئے' سمجھایا بجھایا' تسلیاں دیں' بڑے گو نجیلے الفاظ میں آنے والے دنوں کے عظمت کا خوف دلایا' اور پھر یہ بھی کہا کہ "سجاد اب

کے ایم۔ اے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا' اور پھر!" ———

"پھر کیا؟" اختری نے سوچا۔ "وہ پشاور میں ہوں گے' تو میں نکودر میں ہوں گی' وہ میرٹھ میں جائیں گے تو میں قصور میں پڑی سڑتی رہوں گی۔" لیکن اس نے ابا کے کہنے پر استعفا دینے کا خیال دل سے نکال دیا۔ آج سے دو چار دن پہلے' وہ پھر اسی معاملے پر غور کر رہی تھی کہ اچانک اس کی تقدیر نے پلٹا کھایا' اور مقابل کے بالا خانے کی کھڑکی آباد ہو گئی۔

مسکراتی ہوئی لڑکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ "آج تم سب کے لبوں پر تبسم کیوں کھیل رہے ہیں؟ نویں جماعت کی لڑکیوں کو اپنی استانی کے سامنے ایسے اکھڑپنے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔" ——— لیکن لڑکیاں بدستور مسکراتی رہیں' اور ایک نے تو جرات کر کے یہ بھی پوچھ لیا۔ "استانی جی! وہ مٹیالے رنگ والی ساڑی کیا کی آپ نے؟"

اور اختری مسکرا کر بولا۔ "اچھا یہ بات ہے' لیکن وہ دیکھو' زہرا نے نئی قمیص پہن رکھی ہے' اور رادھا رانی کا دوپٹہ آج خلاف معمول اجلا اجلا ہے' اور وہ رشیدہ کے کانوں میں نئے جھمکے! میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی۔"

لیکن لڑکیاں محسوس کر رہی تھیں کہ یہ بالکل نئی بات ہے۔ اپنے اس نئے نئے راز کو یوں فاش ہوتا دیکھ کر وہ بہت گھبرائی۔ لڑکیوں کو بے وجہ جھڑکا' اور جب گھر واپس آئی تو بڑھیا کو اپنے چولے سے جوئیں نکالتے دیکھ کر آگ بگولا ہو کر رہ گئی۔ بولی۔ "کیا انہی ہاتھوں سے مجھے کھانا وغیرہ ———" اور سامنے کی کھڑکی میں اسے ایک سایہ نظر آگیا۔

بڑھیا اختری کے تیور جانچ کر بولی۔ "لیکن بی بی! کھانا پکانے سے پہلے ہاتھ دھو لیتی ہوں میں۔"

اختری نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت کوئی اس کے تصورات کی ہولے ہولے بہتی ندی میں کنکر پھینک دے' بڑھیا کو خاموش رکھنے کے لیے وہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

مسکرائی اور بولی "میں نے کب کہا ہے کہ تو ہاتھ صاف نہیں کرتی' تیری ایسی ستھری اور سگھڑ بڑھیا تو مغل شہزادیوں کو بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔" اور بڑھیا خوش ہو کر یوں ہنسی' جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑا کنکروں پر دوڑا جا رہا ہو۔

سامنے کھڑکی سے دھوئیں کی پتلی پتلی دھاریاں لہراتی ہوئی نکل رہی تھیں اور ان دھاریوں میں بہت دلاویز اور درد ناک سی گنگناہٹ تیرتی آ رہی تھی۔ اختری کھڑکی کے پاس جا کر بہت دیر تک کھڑی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ اس تصویر میں یہ پراسرار مصور کوئی نیا رنگ بھرے گا' مگر دھواں اسی طرح اڑتا رہا۔ گنگناہٹ اسی طرح تیرتی رہی۔ صرف سورج کے مغربی افق تک پہنچ جانے کی وجہ سے یہ منظر دھندلا سا گیا۔ پلٹ کر وہ دروازے کے پاس گئی اور بڑھیا کو چائے لانے کے لیے کہا۔ حیران بڑھیا باورچی خانے سے نکل کر بولی۔

"بی بی! چائے تو کب کی تپائی پر رکھ آئی ہوں میں۔"

"اچھا!" اختری مسکرائی اور تپائی کے قریب آ کر چائے کی طرف دیکھا' تو زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی۔ "گرم چیزیں دیر تک ایک جگہ پڑی رہنے سے سرد ہو جاتی ہیں۔ بڑی اماں اٹھا لے جا طشت کو اور اس چائے کو پھر گرم نہ کرنا' بدذائقہ ہو جائے گی۔"

بڑھیا چائے اٹھا کر لے گئی تو اختری سوچنے لگی کہ یہ عجیب نوجوان ہے جو نہ کہیں باہر سیر کو جاتا ہے' نہ اپنے کمرے ہی میں ٹہلنے کی تکلیف گوارا کرتا ہے۔ کھڑکی میں سے بھی نہیں جھانکتا' سگریٹ سلگا کر بے مزہ اشعار گنگناتا رہتا ہے اور دیر تک گنگناتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے یہاں آنے سے قبل میرا بھی تو یہی معمول تھا' ان دنوں میری کوئی سہیلی نہ تھی' کوئی ہمجولی نہ تھا' اکیلی تھی میں۔ لیکن جب میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا دوست ہو جائے' میرے دل کو اس آرزو سے ہی تشفی مل رہی ہے۔ شاید یہ بھی اکیلا ہے۔ اسے بھی اس منحوس قصبے میں اپنا کوئی ہم خیال نہیں ملتا اور اسی لیے اس اندھیرے بالا خانے

میں پڑا سڑ رہا ہے۔ اب اسے کون بتائے کہ تیرے بالا خانے کے مقابل کی کھڑکی میں تجھے اپنی ہم خیال اور ہم مذاق دوست مل جائے گی' لیکن وہ کھڑکی سے باہر دیکھے بھی تو' وہ تو کسی دیوار کی اوٹ میں بیٹھا جانے اب پڑھ رہا ہے یا سو رہا ہے یا سوچ رہا ہے۔ اب گنگناہٹ بند ہو چکی تھی۔ رات کی وجہ سے دھواں بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اور ہنوز وہ کمرہ اسی طرح تاریک تھا۔

کھانا کھا کر اختری پھر کھڑکی کے پاس آ بیٹھی۔ ایک بار سامنے ایک دیا سلائی روشن ہوئی اور ایک مدھم سی روشنی پھیل گئی۔ شاید موم بتی جلائی تھی اس نے یا کوئی گھٹیا قسم کی لالٹین اور اس کے بعد وہی گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ بہت رات گئے تک اختری وہیں بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھیں دکھنے لگیں' کان بجنے لگے اور کل سے دل کی کونپل پر جو کلیاں مسکرانے لگی تھیں وہ جیسے کملا کر نیچے لٹکنے لگیں۔ پلٹی اور دھم سے پلنگ پر جا گری۔ بہت دیر تک سوچتی رہی کہ یہ عجیب پراسرار نوجوان ہے جو اپنے آپ کو اس اندھیری چار دیواری میں اس شدت سے جکڑے ہوئے ہے۔ خدا جانے اس کے خیالات کیا ہیں؟ جذبات کیا ہیں؟ اس کی افتاد طبع کیسی ہے؟ کیا شغل ہے اس کا! یہ تو میرے لیے الف لیلہ کا کوئی کردار بنتا چلا جا رہا ہے اور میں کتنی بے وقوف ہوں کہ ایک مبہم سے خیال کے زیر اثر اتنی دیر تک جاگتی رہی اور آج سکول میں خواہ مخواہ لڑکیوں کے استہزا کا نشانہ بنی۔ چائے بھی تو نہ پی' جس کے بغیر میں اپنے آپ کو برف کا تودا سمجھنے لگتی تھی۔ کوئی کام بھی تو نہ کیا اور وہ میری کوریلی کے ناول میں اس مغموم لڑکی کو جانے وہ نوجوان ——— وہ اٹھی' ناول کھولا اور ایک صفحہ کی تلاش میں تھی کہ اسے نوجوان کی گنگناہٹ بلند ہوتی سنائی دی۔ پلنگ سے کھسک کر وہ کھڑکی کے قریب پہنچ گئی' لیکن نہ جانے کیوں اب وہ اپنے آپ کو اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک طرف دبکی کھڑی رہی اور وہ نوجوان کھڑکی سے باہر نکل کر ایک شعر گاتا رہا

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.iqbalkalmati.blogspot.com

اختری نے کئی بار ارادہ کیا کہ ہمت کر کے کھڑکی کے مقابل آجائے' لیمپ کی روشنی تو کسی حالت میں اس کے چہرے پر نہ پڑ سکے گی اور پھر اس نوجوان کا چہرہ بھی تو نظر نہیں آتا۔ اس کھڑکی میں بھی ایک سایہ۔ ایک دوسرے سائے دیکھ کر شاید ——— شاید ——— شاید کیا! اس کے دل میں چند "ناپاک" خیالات آئے۔ ناپاک اس لیے کہ دسویں جماعت میں پڑھی ہوئی ایک مذہبی کتاب کے نقطہ نظر سے اس قسم کے خیالات کنواری لڑکیوں کو زیب نہیں دیتے تھے اور ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نوجوان پیچھے ہٹ گیا اور اختری کھڑکی کے مقابل دیر تک کھڑے رہنے کے بعد پھر اسی طرح پلنگ پر آگری۔

اس نے اپنے دل میں چمکتی ہوئی چنگاریوں پر راکھ ڈال کر انہیں بجھانے یا کم از کم چھپانے کی بہت کوشش کی مگر وہ پھر سطح پر ابھر آتیں اور وہ کروٹیں بدل بدل کر اپنے شانے چھیلتی رہی۔ نیند آئی تو انہی سنسان خوابوں کو ساتھ لیے' اور جب صبح ہوئی تو کھڑکی سے اسی طرح دھواں اور دھوئیں کے ساتھ گنگناہٹ باہر تیرے جا رہی تھی۔ اور یہ دھوئیں اور گنگناہٹیں پیدا کرنے والا نظر نہ آتا تھا۔

یوں تو گزر نہ ہوگی۔ اس نے سوچا۔ جرات کرنی چاہیے' لیکن ایک کنواری لڑکی ہوتے ہوئے یہ جرات کرنے کا خیال ایک خواب سا بن جاتا۔ وہ چاہتی کہ یونہی آپ ہی آپ بغیر کسی تردد کے' وہ ادھر توجہ کرنے لگے تو ذرا یہ دن اچھے گزر جائیں گے۔ شرمی معلوم ہوتا ہے اور پھر پڑوسی بھی ہے۔ سکول کے بعد اکٹھے چائے پی لی یا ادب کے متعلق دو چار باتیں کر لیں۔ بس۔ میں اور کیا چاہتی ہوں۔ کچھ نہیں۔ بس ذرا وقت اچھا کٹ جائے گا' اس کا بھی اور میرا بھی۔ اور میرا کیا ہے' یہ بے چارہ یہاں بیمار پڑ جائے گا' اس کا اپنا بھلا ہے اس بات میں۔

اچانک اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ نوجوان سامنے کھڑکی میں سے باہر

جھانک رہا تھا۔ لمبے لمبے پریشان بال' بڑی بڑی اداس آنکھیں' باوقار لیکن پژمردہ چہرہ۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا اور جب سیدھا ہوا تو اچانک اس کی نظریں اختری پر پڑیں جو اس کے بالکل مقابل بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سن ہو کر رہ گیا' رنگ فق ہو گیا۔ اور آنکھوں پر گھنی بھنویں جھک آئیں۔ اختری کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ نیچے دیکھنے لگا۔ اور پھر گھوم کر ایک طرف ہو گیا اور اختری نے آج پھر سنگار دان کو ایک گھنٹہ تک استعمال کیا اور یوں بن ٹھن کر نکلی کہ لڑکیاں اسے دیکھ کر دم بخود سی رہ گئیں۔ دن بھر وہ لڑکیوں کو لطیفے سناتی رہی اور پھر میری کوریلی کے ایک ناول کا پلاٹ بھی سنایا۔ اور پھر جب وہ اس مغموم لڑکی کی باتیں کر رہی تھی جسے وہ نوجوان ——— ! تو وہ اچانک رک گئی اور لڑکیوں نے ایک زبان ہو کر پوچھا۔ "آگے استانی جی؟"

"بس میں نے یہیں تک پڑھا ہے۔" اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ اور لڑکیاں اداس اداس سی ہو گئیں۔ جانے وہ نوجوان ——— یہ نشتر ان کے دلوں میں چبھنے لگا اور جب اختری گھر واپس آئی تو یہی سوچ رہی تھی کہ جانے وہ نوجوان ——— خدا جانے! کوئی اپنی تقدیر کو کیا سمجھے۔ مستقبل کے متعلق سوچنا تو بے کاروں کا مشغلہ ہے' کیونکہ سوچ سوچ کر ناحق جی ہلکان ہوتا رہتا ہے اور پھر ہوتا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے' لیکن جانے!

بڑھیا کی خوشامد کرتی وہ اپنے کمرے میں آئی۔ دیر تک لباس نہ بدلا۔ شاید وہ نوجوان کھڑکی سے جھانکے۔ لیکن بہت دیر تک انتظار کرنے کے بعد وہ مایوس سی ہو گئی۔ نیا لباس اتار دیا اور میلی ساڑھی پہن لی تو وہ سامنے کھڑکی میں نمودار ہوا۔ اختری نے یوں محسوس کیا جیسے اس کے ہاتھوں میں سے چینی کے برتنوں کا طشت چھوٹ کر فرش پر گر گیا ہے' سنگین بت کی طرح وہیں جم گئی۔ نوجوان کی نظریں سیدھی اس پر پڑیں اور انہوں نے اختری کا کچھ اس انداز سے جائزہ لیا' جیسے وہ بیوٹی کمپی ٹیشن کا سب سے بڑا جج ہے' اور اختری

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

یوں ساکت و صامت کھڑی رہی جیسے آج ہی اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ نیچے فرش پر نظریں جمائے رکھیں' شانے پر پڑے ہوئے بالوں کو سر کے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور سامنے دیکھا تو نوجوان کھڑکی سے ہٹ چکا تھا۔ اسے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا۔ ایک غیر مرد کے سامنے پاگلوں کی طرح اپنے حسن کی نمائش کرنے کے لیے کھڑی رہی اور اور وہ غیر مرد اتنا بے نیاز! اتنا بدمذاق کہ اس نے توجہ ہی نہ کی۔ اختری نے محسوس کیا جیسے وہ اس گھناؤنی صورت والی گداگر چھوکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے' جو روزانہ نیچے گلی میں قدم قدم پر کوڑھ کے کیڑے گراتی گزر جاتی ہے۔

اس نے جی ہی جی میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس طرف کبھی نہ دیکھے گی۔ کھڑکی بند کر دیتی' لیکن روشنی اور ہوا کا ایک ہی تو راستہ تھا' بس وہ ادھر دیکھے گی نہیں۔ یہیں پلنگ پر لیٹی ناول پڑھتی رہے گی' لاہور کی سہیلیوں کو خط لکھتی رہے گی' سجاد صاحب کے متعلق سوچتی رہے گی' بہرحال وہ ادھر توجہ نہ کرے گی۔

اور یہ تہیہ کر کے وہ باورچی خانے میں گئی۔ بڑھیا کے پاس بیٹھ کر چائے پی اور دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ پھر اپنے کمرے میں آکر لیمپ روشن کیا۔ نظریں جھکائے پلنگ تک آئی اور خدا جانے کس طرح اس کی نظریں کھڑکی پر جا پڑیں۔ کھڑکی ہوا کے جھونکے سے بند ہو چکی تھی۔ یہ اچھا ہوا' اس نے سوچا' ورنہ میں تو اپنے فیصلے سے انحراف کر چکی تھی۔ یہ اچھا ہوا' اس کے بعد اسے ہوا کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جا کر کھڑکی کھولی تو وہ نوجوان باہر گلی میں جھانک رہا تھا۔ کھڑکی کھلنے کی آواز سنی تو وہ پیچھے ہٹ کر ایک طرف گھوم گیا۔

اور اختری سوچنے لگی کہ شاید یہ نوجوان شرماتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اگر میری طرف توجہ کر بیٹھا تو میں کہیں ہنگامہ نہ مچا دوں لیکن مجھے تو وہ خاصا سیانا

www.iqbalkalmati.blogspot.com

دکھائی دیتا ہے۔ کیا اس نے میری آنکھوں کی چمک اور میرے گالوں کے رنگ نہیں دیکھے! کیا وہ سمجھتا ہے کہ میں کھڑکی کے پاس صرف ہوا خوری کے لیے آ کھڑی ہوتی ہوں! بے چارا کتنی غلطی پر ہے۔ اسے سمجھایا جائے لیکن کس طریقے سے! اب میں کیسے اسے آواز دوں اور جب جب وہ کھڑکی میں آئے تو کیسے کہوں کہ تم ناحق' ہچکچا رہے ہو۔ تم میرے ——— ! سوچوں کے اس بڑھتے ہوئے دھارے کے سامنے اچانک کسی احساس نے بند باندھ دیا۔ آکر پلنگ پر گر پڑی' اور روشنیوں اور تاریکیوں کو آپس میں گھلتے ملتے دیکھتی رہی' یوں نہیں' یوں۔ یوں بھی نہیں۔ نہیں نہیں' یوں بھی ٹھیک نہیں' یوں!

لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچی۔ اور صبح اٹھ کر جب وہ لباس بدل رہی تھی تو اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ وقت سے بہت پہلے سکول پہنچی۔ سکول کی پرانی ملازمہ کو بلا کر ایک طرف لے گئی اور بولی۔ "میں جب سے اس سکول میں آئی ہوں' مجھے بڑی اماں تمہارے سوا کسی سے دلچسپی نہیں۔ تمہاری میٹھی میٹھی باتیں اور تمہاری بزرگی اور تمہاری مہربان صورت ——— میں تو اس بھرے شہر میں صرف تمہیں کو اپنا سمجھتی ہوں ورنہ یہ خشک استانیاں اور یہ گستاخ چھوکریاں ——— ان سے تو میرا جی بیزار ہو چکا ہے۔ تم اتنی اچھی ہو بڑی اماں کہ ———"

اور بڑھیا مسرت سے ہانپتی ہوئی بولی۔ "لیکن بیٹی تو نے مجھے کبھی کوئی خدمت تو نہیں بتائی۔ میری بزرگی اور میری باتیں تمہارے کس کام کی؟ تمہارے یہاں آنے سے پہلے ایک استانی آئی تھیں ———"

اختری گھبرا گئی۔ اب بڑھیا ایک ایسے قصے کو چھیڑنے والی تھی جو شام تک بھی شاید ہی ختم ہوتا۔ جیب سے دس روپے کا ایک نوٹ نکال کر بولی۔ "بڑی اماں! اتنا بڑا کام میں تمہارے سوا اور کسی کے سپرد نہیں کرتی۔ یہ لو اپنا انعام اور شام کو میرے پاس آئیو۔ میں تمہیں ایک خط لکھ کر دوں گی اور وہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

——— "اختری کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ہونٹ کانپنے لگے اور کچھ کہنے کی کوشش کی اور کچھ کہہ نہ سکنے کے دکھ سے اس کا رنگ اڑ گیا۔

بڑھیا مسکرا کر بولی۔ "لے بی بی مجھ سے پردا کیا۔ بتاؤ کون ہے! بس یہ سمجھو۔ میرے سر پر سلیمانی ٹوپی ہے' کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ میں آج تک بھوسہ نہیں چھانتی پھری یہاں سب نئی نئی استانیوں کے رقعے ———"

اور اختری کل کی طرح بول اٹھی۔ "وہ میرے گھر کے مقابل ایک پرانا سا بالا خانہ ہے نا' وہاں ایک نوجوان رہتے ہیں' انہیں دے آئیو"

"اچھا وہ شفیق!" بڑھیا ہنسی۔

شفیق! اور بڑھیا اسے جانتی بھی ہے' حیران بھی ہوئی' خوش بھی ہوئی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ اسکول کے چھ گھنٹے اس کے سینہ پر کابوس کی طرح سوار رہے۔ آخری گھنٹی بجی تو لپک کر گھر آئی۔ بہت سے خط لکھے اور پھاڑ کر پھینک دیئے اور آخر وہ صرف یہ دو سطریں ہی لکھ سکی۔

حضرت!

پڑوسیوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہوتے ہیں' ان سے تو آپ ناواقف نہیں ہوں گے۔ آج رات کا کھانا میرے ہاں تناول فرمایئے گا۔

اختری

خط لکھ چکی تو سکول کی بوڑھی ملازمہ آ پہنچی۔ اسے لفافہ دیا اور پھر کھڑکی کے پاس آکر بیٹھ گئی۔ دل یوں دھڑکنے لگا جیسے اسے کسی نجومی نے زلزلے کی اطلاع دے دی ہے اور وہ کائنات کے کروٹ بدلنے کی منتظر ہے۔ جسم تپ گیا' آنکھوں کے ڈوروں میں جلن سی ہونے لگی۔ سامنے کھڑکی سے اسے بڑھیا کے سلیپر گھسٹنے کی آواز آئی۔ دس بارہ منٹ تک خاموشی رہی۔ اور پھر سلیپروں کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے پلنگ پر بیٹھ کر میری کوریلی کا ناول پڑھنے لگی اور جب اس مغموم لڑکی نے اس نوجوان کو ———! بڑھیا نے اسی کا لفافہ

سامنے میز پر رکھ دیا۔

"جواب ہی نہیں دیا؟" اختری نے پوچھا۔

اور بڑھیا بولی۔ "اری بی بی! تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ تیرے خط کے پیچھے ہی کچھ لکھ دیا ہے اس نے۔ لفافہ تو کھول۔"

اختری نے لفافہ کھولا۔ آنکھوں کے سامنے ایک بحر زخار سا لہریں لینے لگا۔ اور پھر ان اچھلتی اور لپکتی ہوئی لہروں میں سے یہ دو سطریں ابھریں:

محترمہ!

میں دودھ کا جلا ہوں اور اب چھاچھ کو پھونک پھونک کر پینے کے بجائے اسے چھوتا تک نہیں۔ شکریہ!

شفیق

اختری خط پڑھ چکی تو بڑھیا کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی۔ "کل پھر کس وقت؟ مبارک ہو بی بی! شفیق بڑا اچھا چھوکرا ہے۔ میں اس کی پرانی خدمت گار ہوں۔"

بڑھیا چلی گئی تو اختری بہت دیر تک سامنے دیوار پر نظریں گاڑے بت کی طرح بیٹھی رہی اور پھر اچانک بگلے کی طرح ابھر کر ایک کاغذ کھینچا اور اس پر کچھ لکھنا ہی چاہتی تھی کہ سامنے بالا خانے کی کھڑکی کھڑاک سے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ لپک کر کھڑکی تک گئی۔ نیچے گلی میں جھانکا تو وہی نوجوان ہاتھ میں بستر لٹکائے اور کاندھے پر ایک بکس دھرے سیڑھیاں اترا اور پھر ہولے ہولے چلتا ایک گلی میں مڑ گیا۔ اختری نے یوں محسوس کیا جیسے کسی نے اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا ہے۔ دیوانوں کی طرح قلم کی تلاش میں سارا کمرہ چھان مارا اور آخر اسے قلم اپنے ہاتھ ہی میں مل گیا۔ میز پر جھک گئی۔ کچھ لکھا' بڑھیا کو آواز دی' وہ بھاگی بھاگی آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے بولی۔ "یہ جا کر ڈاک خانے ڈال آؤ جلدی۔"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com

"گھر بھیج رہی ہو بی بی!" بڑھیا نے پوچھا۔ "میرے سلام لکھ دیئے ہیں' بڑی بی بی جی کو؟"

"یہ میرا استعفا ہے۔" اختری بولی۔

"استعفا' بی بی!" بڑھیا کی دھندلی آنکھیں پھیل گئیں۔ "کیوں؟"

"میں یہاں لڑکیوں کو پڑھانے اور سکھانے آئی تھی۔" اختری بولی۔ "لیکن مجھے ابھی خود ہی بہت کچھ پڑھنا اور سیکھنا ہے۔ خط ڈال آؤ اور پھر آکر اس کھڑکی کو بند کر کے اس میں کیلیں ٹھونک دو کہ پھر کھل نہ سکے۔ میں آج کل تیز ہوا سے گھبراتی ہوں ——" اور اس نے میری کوریلی کا ناول اٹھا لیا۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com